


شکنافریز



ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر



Marfat.com

شیخ قریب

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد نزیر

۱۱۹۹۲

نام کتاب : ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کی نشری تقاریر
مقرر : ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر زید مجدد
اشاعت : اول
تاریخ اشاعت: جون ۲۰۰۶ء
زیر اهتمام : صاحبزادہ عزیز محمود الازہری
نظر ثانی : علامہ محمد انور نقشبندی
کمپیوٹر کپوزنگ : حافظ محمد شاہ نواز
تحصیج و ترتیب: ساجد حسین چودھری
قیمت : **Rs.120/=**

ملنے کا پتہ

رکن لا اسلام جامعہ مجددیہ آزاد میدان ہیر آباد حیدر آباد

022-2617086-2633794

فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
5	پیش لفظ	1
6	اسلامی ضابطہ حیات حقوق اور فرائض میں	2
18	ادائیگی حقوق میں توازن	3
20	اعتدال اور میانہ روی	4
23	غریبوں اور حاجتمندوں کی امداد	5
26	بھیک مانگنے کی نہ ملت	6
30	وصیت کے احکام	7
32	عدل و انصاف	8
36	یتیم کی پرورش	9
40	تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانا	10
43	حلال کماں	11
45	کسب حلال	12
48	ملادث اور دھوکہ دہی	13
51	بے جامنافع خوری	14
54	قرض کی جلد ادا یگی	15
56	سود کی برائیاں	16
58	اپنی مدد آپ کرنا	17
60	ہر ایک کیلئے سہولت اور آسانی پیدا کرنا	18

صفحہ نمبر

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کی نشری تقاریر

نہست

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کی نشری تقاریب

مختصر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

۹۷ء میں ریڈ یو پاکستان نے ”حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کے عنوان سے مختلف تقاریر کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اس میں مختلف عنوانات پر گفتگو کرنے کے لئے حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زیر صاحب زیدہ مجدد کو مدعو کیا، آپ نے وہاں جو تقاریر فرمائیں جکو ریڈ یو پاکستان نے نشر کیا ان تقاریر کو مخلوقِ خدا کے عام استفادہ کے لئے طبع کر کے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے۔

اس کے علاوہ بھی مختلف موقع پر ریڈ یو سے جو آپ کی تقاریر نشر ہوئیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ امید ہے بندگان خدا کی رہبری اور ہدایت کے لئے یہ تقاریر کا مجموعہ نہایت مفید اور نفع بخش ثابت ہو گا۔

اسلامی ضابطہ حیات حقوق اور فرائض میں

دنیا میں آج جتنے بھی مذاہب اور ادیان ہیں جب ہم ان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہر مذہب کے بانی اور اس کے پیروکار نے سوسائٹی سے علیحدہ ہو کر اپنے سکون کا راستہ تلاش کیا اور معاشرہ سے بالکل قطع تعلقی کر لینے کو اپنی منزل مقصود کا ایک زینہ تصور کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ گوتم اپنی نوجوان بیوی اور نوزائیدہ بیچے کو سوتا چھوڑ کر رات کی تاریکی میں جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ ادھر ”دید بیاس“ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آبادی اور معاشرے سے نفرت کرتا ہوا اپنے ماں باپ کو تن تہا چھوڑ کر بیابانوں اور دیرانوں کا رخ کر لیتا ہے، ادھر ہم جو گیوں، رسیوں، سنیا سیوں، بیرا گیوں کو بستیوں سے دور دھونی لگائے، جنیں لٹکائے، آس جمائے پہاڑوں اور غاروں میں تن تنہا اپنی ریاضتوں میں مصروف دیکھتے ہیں۔

الغرض ہر مذہب والا آبادیوں سے اور بستیوں سے دور رہ کر اپنے روح کے سرور کو تلاش کرتا ہے لیکن ”اسلام“ یہ وہ ایک واحد آفاقتی اور عالمگیر مذہب ہے جو انسان کو معاشرہ اور سوسائٹی میں رکھ کر پھر اس کو راحت اور سکون کی زندگی عطا کرتا ہے اور اس کا طریقہ وہ صرف دلفظوں میں بیان کرتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں خالق کے حقوق، جنہیں ”حقوق اللہ“ کہا جاتا ہے، اور ایک ہیں بندے کے حقوق، جنہیں ”حقوق العباد“ کہا جاتا ہے۔ وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم یہ دونوں حقوق ادا کرو جب وقت آئے حقوق اللہ کا تو اس کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ اور جب وقت آئے

حقوق العباد کا تو اس کو بھی بخوبی بجا لاؤ اور پھر دیکھو کہ تم کس طرح فرحت و اطمینان کے ساتھ معاشرے میں زندگی بر کرتے ہو، اس لئے کہ ان حقوق کو ادا کرنے والا معاشرہ ایسا پرسکون اور طمانتیت بخش ہوتا ہے کہ اس میں رہنے والے کو بھی کوئی تکلیف اور ایذا نہیں پہنچ سکتی۔ پھر تو غاروں اور پہاڑوں اور عزلت کدوں میں بھی آرام اور سکون نہ ہوگا جو تمہیں اس پرسکون معاشرے میں نصیب ہوگا۔

پھر یہ معاشرہ ایک دوسرے کو کھا جانے والا نہ ہوگا بلکہ جان بلب مریضوں کے لئے نوید مسیحا ہوگا، یہ معاشرہ ایک دوسرے کو دشمن بنانے والا نہ ہوگا بلکہ اذلی دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کا جگری یار بنانے والا ہوگا۔ ہاں! یہی معاشرہ بد امنی اور فساد کا مرکز نہیں بلکہ امن و آتشی کا گھوارہ بن جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، جس معاشرے میں ہر حقدار کے حق کو ادا کیا جاتا ہو جہاں ہر ذی حق کو اس کے جائز حق سے محروم نہ رکھا جاتا ہو وہاں پھر بھلا بد امنی اور بے چینی کب قائم رہ سکتی ہے، اس لئے کہ بے چینی اور بے اطمینانی حق نہ ملنے پر ہوتی ہے، جب ہر ایک کو اس کا حق مل گیا تو پھر بے چینی اور بے اطمینانی کا کیا سوال؟

والدین کے حقوق:

ذراغور فرمائیں اور تصور کریں کہ وہ نکنا پا کیزہ معاشرہ ہوگا جہاں یہ فرمائے والدین کے حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ ”**ولَا تُقْلِلْ لَهُمَا فَوْلَا تُنْهِرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوْلَا كَرِيمَا**“ فرمایا کہ والدین کو برا بھلا کہنا تو درکناراں کو اف بھی نہ کرنا اور نہ انکے ساتھ سختی سے بات کرنا بلکہ ہمیشہ تعظیم اور ادب

کے ساتھ پیش آنا۔ ادھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان اور احسان جتنا نہیں دینا اور شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا (مشکوٰۃ بحوالہ سنن نسائی سنن دارمی باب البر والصلة) ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے بیت ثواب محبت و مودت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو حم برور کا ثواب عطا فرمائیگا یہ سن کر ایک صحابی کو حیرت ہوئی اور انہوں نے تجھ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! اگر چہ سو مرتبہ دیکھے؟ آپ نے فرمایا "نعم اللہ اکبر اطیب" ہاں اگر چہ وہ دن میں سو مرتبہ ہی دیکھے خدا اس کو سو مرتبہ حج مبرور کا ثواب دیگا (مشکوٰۃ باب البر والصلة) اس لئے کہ وہ بھی بڑا ہے تو اس کی رحمت بھی بڑی ہے اس کی بھی انتہا نہیں تو اس کی وسیع رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس کریم و رحیم کی بے پایا رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں، امیر میانی اس کی شان کریمی کو اپنے انداز میں خوب بیان گرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

نگاہ کرم سے مجھ کونہ دیکھے اے دوزخ
خبر نہیں تجھے کس کا گنہگار ہوں میں
پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھے
= گنہگار یہ کہہ دے گنہگار ہوں میں

اولاً اور بچوں کے حقوق:

پھر جہاں والدین کے حقوق بتائے گئے وہاں والدین کو بچوں اور اولاد کے حقوق سے بھی آگاہ کیا گیا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ سات روز کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کر دو اور اس کا نام رکھو، جب وہ چھ برس کا ہو جائے تو اس کو ادب سکھاؤ اور جب نو سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے بستر سے جدا کر دو اور اس کو علیحدہ سلاو اور جب وہ تیرہ برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی سختی سے تنہیہ کرو اگر نہ مانے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اور جب وہ اٹھاڑہ سال کی عمر کو پہنچے تو تمہارا آخری حق یہ ہے کہ اس کی شادی کر کے اس کو خدا کے سپرد کر دو۔ سبحان اللہ، چند لفظوں میں آپ نے حقوق اللہ اور حقوق اولاد کا بڑے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچ کے رکھ دیا (مکافحة القلوب لام غزالی ص ۶۳۲) ایک اور مقام پر روحی فدah صلی اللہ علیہ وسلم گوہر فشاں ہوتے ہیں کہ "لیس منامن لم یرحم صغیرناولم یؤقر کبیرنا" (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی باب الشفقة والرحمة علی الخلق ص ۳۲۳) "جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں،" اس پر خود عمل کر کے اس والی دو جہاں نے ہمیں دکھایا کہ ممبر پر تشریف فرمائیں اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے دوڑتے ہوئے ادھر آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ فوراً ممبر سے اتر پڑتے ہیں اور ان کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔

ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بچی بھی ہے جو سرخ کرتا پہنے ہوئے ہے۔ آپ اس بچی کو بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور بڑے پیار سے فرماتے ہیں سنه، سنه، کیونکہ اس لڑکی کی پیدائش جب شہ میں ہوئی تھی اور جب شی زبان میں "حسنہ" اچھے اور خوبصورت کو "سنه" کہتے ہیں اس لئے اس مناسبت سے آپ نے اس کو "سنه" فرمایا

بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غیر معمولی چیز کو دیکھ کر اس سے کھینے لگ جاتے ہیں چنانچہ یہاں بھی اس پنجی کی نظر جب نبی آخرا زماں کی پشت مبارک پر ابھری ہوئی ”مہربوت“ پر پڑی تو وہ پنجی اس سے کھینے لگ گئی، باپ یہ دیکھ کر غصہ ہو گیا اور پنجی سے ڈانٹ کر کہا کہ خبردار! بیٹا یہ بارگاہ نبوت ہے یہاں ادب سے بیٹھو! یہ سن کر فخر موجودات جناب رسالت مطابصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خالد کو روک دیا کہ خالد، اس پنجی کو کچھ مت کہوا سے یوں کھینے دو۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۸۶)

شوہر کے حقوق:

اسی طرح عورت کو مرد کے حقوق سے آگاہ کیا گیا اور شوہر کی عزت و عظمت، تعظیم و تکریم کو صرف دولفظوں میں بیان کر دیا کہ ”سجدہ غیر اللہ کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں“، بظاہر یہ دولفظ ہیں لیکن ان دولفظوں میں معارف و حقائق کا ایک دریا موجز ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، صحابہ نے دریافت کیا آقا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عورتیں لعنت بہت کرتی ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں، (صحیح بخاری کتاب النکاح باب کفران العشر) ادھر عورتوں سے فرمایا تم اپنے شوہروں کی تلخ نوائی پر صبر کا گھونٹ پی کر چپ ہو لیا کر دیکھنکہ ایسی صابرہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ فرعون کی نیک اور پاک باز بیوی حضرت آسمیہ جیسا اجر عظیم عطا فرمائے گا (مراہفۃ القلوب ص ۶۵۳)۔

بیوی کے حقوق:

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مردوں کے حقوق سے عورتوں کو آگاہ فرمادیا لیکن مردوں کو عورتوں کے حقوق سے آگاہ نہیں فرمایا ایسا ہرگز نہیں بلکہ معاشرے میں رہنے والے ہر ذی حس اور ہرجاندار کا حق بتانے والے رحمتہ للعالمین نے بیویوں کے حقوق سے بھی مردوں کو متنبہ فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ”خیر خیرکم لاحله و ان اخیرکم لاحلى“ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی، داری ا ابن ماجہ باب عشرۃ النساء) یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک رکھتا ہے اور میں تم سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر برداود رکھنے والا ہوں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کی تلخ بات تمہیں ناگوارگز رے تو اسے پی جایا کرو کیونکہ وہ شخص جو اپنی بیوی کی بری عادتوں پر صبر کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا جو اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بلاؤں کے صبر کرنے پر عطا فرمایا، (مکافحة القلوب ص ۶۵۳)

رشته داروں کے حقوق:

اسکے بعد مسلمان کی توجہ پورے خاندان کی طرف دلائی جاتی ہے، اور عزیز و اقارب کے حقوق کی اہمیت اور افادیت کو ان الفاظ میں آشکارا کیا جاتا ہے کہ ”جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی فراخ ہو اور وہ طویل عمر پائے تو اسے چاہئے کہ صلہ رحمی کرے (مکافحة القلوب بحوالہ بخاری مسلم ص

(۱۹۱) ایک اور فرمانِ رسول ہے کہ ”کوئی فضیلت اس سے بڑھ کرنہیں کہ کوئی تم کو توڑے تو تم اس سے جوڑو“، ”کوئی تم کو محروم کرے تو تم اس کو عطا و بخشش سے مسحور کرو اور کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس پر رحم کرو اور اس کو معاف کر دو“ (طبرانی) حقیقت یہ ہے کہ ان چند الفاظ میں آپ نے گھریلو اور خاندانی زندگی کا راز بیان فرمادیا۔

ہمسایوں کے حقوق:

خاندان کے حقوق کے بعد پڑوس میں رہنے والے ہمسایوں کے حقوق کی طرف بھی خیال دلایا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اسکے شر سے محفوظ نہیں (صحیح بخاری کتاب الادب باب اثم من لایا من جارہ بو اقہہ) حضرت ابوذر رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حبیب کبria صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اے ابا ذر! جب تو کھانا پکائے تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال لیا کرتا کہ تھوڑا سا سالم تیرے پڑوی کے لئے بھی نکل آئے (صحیح بخاری کتاب الادب باب حق الجوار)۔

خادموں، غلاموں، اور ملازموں کے حقوق:

اس سے آگے بڑھ کر زیرِ دستوں، ماتحت خادموں، غلاموں اور ملازموں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے لہذا اپنے ان ماتحتوں کو وہی کھانا دو جو تم خود کھاتے ہو، ان کو پہننے کے لئے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو، ان سے ایسا کام نہ لوجوان کی طاقت

سے باہر ہو (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم باب النفقات و حق الاملوک)۔ گویا یہ تصور ذہن نشیں کرایا جا رہا ہے کہ یہ وہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا زیر دست اور ماتحت بنایا، اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا ماتحت بھی بناسکتا تھا لہذا ان پر ان کی ہمت و طاقت سے زیادہ بوجہ نہ ڈالو، یہ وہ خیال حضور نے ہم کو دیا کہ اگر یہ ہمارے سامنے رہے تو کوئی افسر اور حاکم کسی بھی اپنے ملازم پر ظلم نہیں کر سکتا۔

ایک روز حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ماتحت غلام کو اس کی کسی غلطی پر مارنے لگے کہ پیچھے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے اور فرمایا اے ابا مسعود یہ مت بھول کر تو جتنا اس غلام پر قادر ہے اس سے کہیں زیادہ خدا تجھ پر قادر ہے یہ سنکر ابو مسعود نے اس غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا، آپ نے فرمایا اگر تو یہ نہ کرتا تو جہنم کا دروازہ تیرے لئے کھل گیا تھا (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم باب النفقات و حق الاملوک)۔

بالا دستوں اور حاکموں کے حقوق:

اب ماتحت غلاموں اور زیر دستوں کے بعد بالا دستوں اور حاکموں کے حقوق کی باری آتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اپنے افسروں، حکام اور اپنے بادشاہوں کی اطاعت کرو اگر شریعت کے مطابق تمہیں حکم دے رہے ہیں تو ان کے حکم کو سنو اور ان سے اس وفاداری اور اطاعت شعاری میں کوئی دیقیقتہ فرد گز اشت نہ ہونے دو (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم کتاب الامارة والقضاء)

”اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم“ کا حکم
ربانی بھی اس پر شاہد ہے۔

تمام مسلمانوں کے حقوق:

اب وہ اہل دعیاں، عزیز واقارب، خدام، ملازمین، پڑوی، ہمایے اور حکومت وقت کے تمام فرائض اداء کر کے ان سب کا پیارا بن گیا اب اس کو عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بنایا جاتا ہے، اس کو محبوب عالم بننے کے لئے یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ "الْمُسْلِمُ مِنْ سَلَمٍ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وِيَدِهِ" (صحیح بخاری کتاب الایمان ج ۱ ص ۶) کہ تم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے اس وقت مستحق ہونگے جب تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچے حتیٰ کہ ایک مقام پر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے لئے آنکھ سے ایسا اشارہ کرنا بھی جائز نہیں جس سے تمہارے مومن بھائی کے دل کو ٹھیس پہنچے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی چنانچہ قرآن فرماتا ہے "عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ" کہ اے مومنو! تمہارا تکلیف میں پڑ جانا تمہارے رسول پر شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری تکلیف اور بے چینی کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں۔ خود تکلیف دینا تو درکنار تمہیں اور کسی سے تکلیف پہنچے تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

اقوام عالم کے حقوق:

اب اس حقوق کے دائرے کو وسیع کیا جاتا ہے اور اس کو وسعت دیکھ تمام اقوام عالم بلکہ ساری انسانیت کے حقوق کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے "وَلَا يَجِرْ مِنْكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" دیکھو! یہ خیال رکھنا کہ اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہو تو وہ دشمنی

اور عداوت تم کو بے انصافی کی طرف کہیں نہ لے جائے، بلکہ دشمن سے دشمن قوم کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آنا کہ عدل ہی خدا تری سے زیادہ قریب ہے ادھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے حقوق کو جامع الفاظ میں یوں بیان کرتی ہے کہ "اَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا" (جامع ترمذی ابواب الزہد) فرمایا حقیقی مسلمان بن جاؤ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو ذرا غور فرمائیں کہ ایسا کون شخص ہو گا جو اپنے لئے برائی پسند کرے گا، لہذا اس حدیث کی رو سے اگر اپنے لئے برائی پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرو۔

ایک اور ارشاد رسول ہے کہ "مَنْ يَسْرِ عَلَى مَعْسُرٍ يُسَرِّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ" (جامع ترمذی ابواب البر والصلة باب ما جاء في الستر على المسلمين) کہ تم شک دستوں اور مصیبت کے ماروں پر آسانی کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان فرمادے گا۔ یہ ہیں وہ انسانیت کے ہر طبقہ کے حقوق جنہیں رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں بتایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا لیکن ہائے افسوس آج ہم ہر چیز میں ترقی کر رہے ہیں لیکن ان حقوق اور فرائض میں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ سچ کہا جگرنے

کیا قیامت ہے اس دور ترقی میں جگر
آدمی سے آدمی کا حق ادا نہیں ہوتا۔

آزادی رائے:

اس کے علاوہ "حقوق انسانیت" کا ایک عظیم پیچیدہ تنازع فیہ مسئلہ

”آزادی رائے“ کا ہے۔ انسانیت کا یہ وہ عظیم مگر مظلوم حق ہے جس پر ہر دور میں ڈاکے ڈالے جاتے رہے۔ لیکن اسلام نے بنی نوع انسان کو ”آزادی رائے“ کا وہ حق عطا کیا ہے جو آزادی انسانیت کا دم بھرنے والی بڑی بڑی قوموں اور جمہوریت کے بلند بانگ دعوے کرنے والے کسی ملک و ملت نے انسان کو ایسا عطا نہیں کیا۔

اس کی مثال میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متین ہیں۔ آپ کے پاس یمن سے کچھ چادریں آتی ہیں۔ جن کو آپ مسلمانوں پر تقسیم فرمادیتے ہیں۔ سب کے حصے میں ایک ایک چادر آتی ہے، کچھ دنوں بعد دشمنان اسلام سے جہاد کی ضرورت پیش آگئی تو عمر بن الخطاب ممبر رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ حد نگاہ تک آدمیوں کا ٹھانٹھیں مارتا سمندر ہے کہ اچانک اس بھرے مجمعہ میں سے ایک ”عام آدمی“ کھڑا ہو کر حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ”یا عمر لَا سمعاً و لاطاعة“ کہ ائے عمر! تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور نہ ہی تیری کسی بات کی اطاعت کی جائے گی۔

دنیائے انسانیت کا عظیم فرماں رو ابجائے غصے اور برہمی کے قبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ اس سے پوچھتے ہیں کہ ”ولمَ ذالك“ کہ میرے بات نہ ماننے کی آخر کیا وجہ ہے؟ وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ ”لانك استأثرت علينا“ اس لئے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے کہ تو نے اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے ”عمر پھر بڑے تحمل کے ساتھ اس سے پوچھتے ہیں کہ ”بهاي شيء استأثرت“ وہ کوئی چیز ہے جس میں میں نے تم غریبوں پر اپنے آپ کو ترجیح دی ہے؟ وہ ہی شخص تفصیل بیان کرتا ہوئے کہتا ہے کہ ”یمن“ سے جو چادریں آئی تھیں ان کو جب تو نے تمام مسلمانوں میں تقسیم

کیا تو ہر ایک کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی لہذا تیرے حصے میں بھی ایک ہی چادر آنی چاہئے تھی جبکہ ایک چادر سے تیرا کرتے پورا بن نہیں سکتا حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ہی چادر کا تو پورا ایک لمبا کرتہ پہنے کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے ایک کے بجائے دو چادریں لی ہیں، تو جواب دے کہ یہ دوسری چادر تو نے زیادہ کیوں لی؟

عالم اسلام کے امیر المؤمنین، دنیا کا عظیم فرماں رو اجسے آج بھی یورپ جنل عمر کے نام سے یاد کرتا ہے جس کی ہیبت سے شہنشاہِ روم کے قاصد پر بھی کچھی طاری ہو جائے، وہ مصطفیٰ کاغلام یعنی فاروق اعظم اس غریب کو جواب دیتے ہیں کہ اے میرے دوست تیرا اعتراض درست ہے، سوال کا جواب میرا بیٹا عبد اللہ مجھے دے گا، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھری محفل میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نے اپنے حصے کی ایک چادر سے اپنا کرتہ سلوانے کا ارادہ فرمایا تو یہ چادر ان کو چھوٹی پڑی تو اس وقت میں نے اپنی چادر ان کو پیش کر دی جس کو ملا کر انہوں نے اپنا کرتہ سلوایا ہے، یہ سن کر وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ "امان الآن فالسمع والطاعة" ہاں اب تیری بات بھی سنی جائے گی اور جو تو کہے گا اس کی اطاعت بھی کی جائے گی۔ (الریاضۃ النظرۃ ج ۲ ص ۳۷) "آزادی رائے کے متعلق تاریخ اسلام کا یہ وہ واقعہ ہے کہ اس کی نظریت اتنی خالم میں کہیں نہیں ملتی۔

بہر حال "حقوق فرانس" کے متعلق اسلام کا بتایا ہوا یہ وہ ضابطہ حیات" ہے جس پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اسکی نجی اور خواہنگی زندگی با غ و بہار بن جائیگی بلکہ پورا معاشرہ، اور ساری انسانیت چمن زار بنتی چلی جائیگی۔

ادائیگی حقوق میں توازن

کسی بھی عمل میں اگر افراط و تفریط سے کام لیا جائے تو اس عمل کا حسن ختم ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تمام حقوق میں خواہ اسکا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو افراط و تفریط سے اجتناب کرنے اور انکے درمیان توازن برقرار رکھنے کا حکم دیا، چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ "ما احسن القصد فی الغنا، ما احسن القصد فی الفقر
ما احسن القصد فی العبادة" (کنز العمال ج ۲ ص ۷) یعنی دولتندی اور تو نگری میں میانہ روی کتنی اچھی چیز ہے، محتاجی میں بھی میانہ روی کتنی اچھی چیز ہے، اور عبادت میں بھی میانہ روی کتنی اچھی چیز ہے اس سے زیادہ عموم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے ہی کام کو اپنے اور پر لازم کیا کرو جتنا تم کرسکو (صحیح بخاری مع فتح الباری جلد اص ۲۵۶) گویا آپ نے ارشاد فرمادیا کہ زندگی کا کوئی سا بھی گوشہ ہو اور کسی کا بھی تم حق اداء کر رہے ہو خواہ وہ اللہ کا ہو یا بندہ کا ہونہ تو اسکیں اتنی کمی کرنا کہ وہ آداء ہی نہ ہو اور نہ اسکیں اتنی زیادتی اور شدت اختیار کرنا کہ دوسرے حقوق تلف ہونے شروع ہو جائیں مثلاً، ایک حق انسان پر اسکے نفس کا بھی ہے، اگر وہ کسی کی اطاعت اور خدمت کر رہا ہے یا اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ کر رہا ہو اسکو حکم ہے کہ وہ اتنی زیادہ نہ کرے کہ وہ اپنی جان کو ہلکا ن کر دے اور اپنے جسم کو نہ ٹھال کر دے۔

چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے اپنی تمام تمام راتیں

صفحہ نمبر (18)

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زیری نشری تقاریر

مازوں میں اور دن روزوں میں بس کرنے شروع کر دئے تھے، آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے ذمہ اور بھی حقوق ہیں (صحیح بخاری کتاب الصوم) اسی طرح اگر کوئی شخص تینیوں، غریبوں اور بے نواؤں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کیلئے قرآن حکم دیتا ہے کہ بیشک ان پر ضرور مال خرچ کرو لیکن دیکھنا اس میں بھی تو ازن برقرار رکھنا اور اتنا مت خرچ کر دالنا کہ پھر تمہارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ رہے۔ اور تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آجائے، اسی طرح اگر تم بیوی کے حقوق اداء کرتے ہو تو اسکی اتنا انہاک نہ ہو کہ اپنے والدین کا بھی کچھ خیال نہ رہے اور انکو بالکل چھوڑ بیٹھو بلکہ پہلے انکا خیال کرو، ہر کام میں اولیت ماں باپ کو دو کہ آج انہی کے صدقہ میں تم اتنے بڑے ہو کر اس مقام پر پہنچے ہو لیکن یہاں بھی ادا نئیگی حقوق میں تو ازن دونوں طرف سے ہونا چاہئے یہ بھی نہ ہو کہ والدین کے کہنے پر اپنا ہرا بھرا گھر تباہ کر دو اور اپنی شریکہ حیات کی مسلسل حق تلفی کر کے اپنی اور اسکی زندگی میں کائنے بھر دو، اسی لئے شریعت مطہرہ میں شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ تمہارے متعلقین کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تو اسکو کسی علیحدہ مکان یا اسی مکان کے علیحدہ حصہ میں اپنی استطاعت کے مطابق رکھو اور ایک ہی جگہ سبکور کھنے پر اصرار کر کے خود مخواہ حق تلفی کر کے تینیوں میں اضافہ نہ کرو۔

اعتدال اور میانہ روی

کنز العمال شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ما احسن القصد فی الغنی ما حسن القصد فی الفقر ما حسن القصد فی العبادۃ" (کنز العمال ج ۲ ص ۷) کہ دولتندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اور فقر میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اسلام ہر چیز میں اعتدال کو پسند کرتا ہے دولتندی اور امیری میں اعتدال اور میانہ روی کو اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا کہ اگر انسان کے پاس بے پناہ دولت آجائے تو وہ عیش و عشرت اور آرام، بنگلوں اور ارکنڈیشنڈ کاروں میں بیٹھ کر غریبوں اور محتاجوں کی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے انکی ضروریات اور حاجات کا اسکوا جس س تک نہیں ہوتا اور غریب تو غریب پیسہ آنے کے بعد تو انسان رشتہ داروں حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے اور جب یہ فانی دولت نہ بن کر اسکے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے تو پھر وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور اب خدا کو بھول جاتا ہے اسکے احکامات کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور نعمتوں پر بجائے شکر ادا کرنے کے اسکے واجبات کی بجا آوری سے انکار کر کے ناشکری کا مرتكب ہوتا ہے اور بعض دفعہ قہر خداوندی اسکو آلیتا ہے اور اسکی یہی ناشکری اسکی محرومیوں اور تباہیوں کا باعث بنتی چلی جاتی ہیں اس ہی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت بھی ہو تو اعتدال کے ساتھ تاکہ وہ حق سے غافل نہ کر دے اور کہیں اسکی زیادتی خدا کی ناشکری اور ناسیا سی کا باعث نہ بن جائے اسی

طرح فقر بھی اعتدال میں ہوا سلئے کہ اگر انسان حد سے زیادہ فقیر ہو جائے تو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس کا فقر کہیں اسکو کفر تک نہ پہنچا دے۔ (مشکوٰۃ باب ما شہی عنہ عن الہاجر)۔

وہ روز کے فاقوں سے تنگ آ کر کہیں اپنے مالک اور رازق کی طرف سے بدگمان نہ ہو جائے اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو ایمان کی دولت بھی اس کے ہاتھ سے چلی جائیگی اسلئے فرمایا کہ فقر بھی ہوتا وہ بھی اعتدال میں یا اس ارشاد والا کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر زیادہ فقر ہو تو انسان اپنی عزت نفس اور خودداری کو ختم کر کے ہر ایک کے آگے دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بہت سے عمدہ اوصاف اور فضائل سے محروم ہو جاتا ہے اسلئے سرکار نے فقر کی زیادتی کو بھی برآسمجھا اور حد تو یہ ہے کہ عبادت جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا اسکیں بھی حد سے زیادہ کثرت کو پسند نہیں فرمایا بلکہ ”ما الحسن القصد فی العبادة“ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیں بھی اعتدال اور میانہ روی کا درس دیا اسلئے کہ اگر انسان عبادت میں بھی اعتدال نہ اپنائے اور دن رات عبادت میں مصروف ہو کر اپنے کام کاروبار اور اپنے تمام دھنڈوں تک کو ختم کر دے تو یہ بھی اچھا نہیں کیونکہ اگر ایسا کریگا تو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیگا اور اگر بالکل ہی کم کر دے تو حق سے غافل ہو جائیگا اور اسکے واجبات اور حقوق پوری طرح ادا نہ کر کے باعث لاکن سزا ٹھہریگا اس لئے فرمایا گیا کہ عبادت میں بھی میانہ روی کو اختیار کرو۔

چنانچہ حضرت ابن عمر کا واقعہ کتب سیرت میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے

تمام تمام رات نمازوں اور دن روزوں میں بس رکنا شروع کر دیے تو آپ نے انکو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور اس عمل میں بھی اعتدال سے کام لینے کا حکم فرمایا (صحیح بخاری کتاب الصوم) الغرض اسلام زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال اور میانہ روی کے اصول پر انسان کو کار بند کرتا ہے مال خرچ کرنے سے لیکر اپنے اعضاء کی قوت صرف کرنے تک ہر چیز میں اعتدال کا درس دیتا ہے چنانچہ فیاضی اور رسعادت کیسی عمدہ صفات ہیں لیکن اس میں بھی حکم ہوتا ہے کہ "ولات بسطهَا کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً" کہ فیاضی میں اپنا اتنا مال مت خرچ کر دینا کہ پھر تمہارے پاس کچھ نہ بچے اور تم فقیر بن کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر و بلکہ سخاوت میں بھی اعتدال کا پاس رکھوتی کہ پانی ایک معمولی سی چیز ہے لیکن اس کے متعلق بھی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص دریا کے کنارہ پر بیٹھا ہوا ہوتا وہ وضو کرتے وقت زیادہ پانی نہ بھائے بلکہ یہاں بھی اعتدال سے کام لے جتی کہ چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی ہمیں اسلام نے میانہ روی کا حکم دیا چنانچہ ارشادِ ربانی ہے "واقصد فی مشیک" کہ اپنی چال کونہ بہت تیز رکھنا بہت ستر کہ بلکہ درمیانی رفتار سے چلا کر و بولنے کے لئے بھی حکم ہے کہ بے تکی اور لغو با توں میں اپنی زبان مت صرف کرو چنانچہ ارشادِ رسول ہے کہ "من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه" : یعنی غیر ضروری باتوں کو ترک کر دینا اسلام کی خوبیوں میں داخل ہے۔ (مجموع الزوابد ^{للبیشی} ۸-۱۸، منداحمد بن حنبل رج اص ۲۰)

غربیوں اور حاجتمندوں کی امداد

ترمذی شریف میں ہے کہ مخبر صادق روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مدد میں اسوقت تک رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے (جامع الترمذی باب ما جاء في الستر على المسلمين) اس حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آدمی کسی حاجت مند کی حاجت روائی میں مصروف ہو مشکل کے وقت اس کی مدد میں لگا رہے تو پھر اسکو اپنے مشکل سے مشکل کام کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ جسکا مدد گارہ رب ذوالجلال بن جائے پھر اس کیلئے کونسا ایسا کام ہے جو مشکل رہ سکتا ہے اور کوئی ایسی مہم رہ سکتی ہے جو سرنہ ہو سکے بلکہ جب کسی کی مدد کرنے کے باعث خدا کی طرف سے غیبی مدد پہنچے گی تو پھر بگزے ہوئے کام بھی بنتے چلے چائیں گے اور ترقی اور ارتقاء کے دروازے خود بخود اس کیلئے واہو جائیں گے، اسکے عملی ثبوت کیلئے ہمارے سامنے حضرت عمر بن الخطابؓ کی سیرت مقدسہ موجود ہے کہ آپ نے اپنے دورِ خلافت میں امیر المحسینین ہونے کے باوجود گھر گھر جا کر لوگوں کی حاجتیں رفع کیں رات رات بھر پھر کر غربیوں کی تکلیفیں دور کیں اور بھیس بدل کر حاجتمندوں کی حاجتوں کو معلوم کیا اور پھر انکی حاجت روائی فرمائی۔

الغرض جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ احساس ذمہ داری کا اظہار فرمایا کہ ”اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتابجھی پیاسا مر گیا اور میں نے اپنی سلطنت اور

(23) صفحہ

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زیدی کی نشری تقاریر

حکومت میں اس کی حاجت پوری نہ کی تو کل قیامت کے دن عمر کو اسکا بھی جواب دینا پڑے گا، وہاں آپ نے اس احساس ذمہ داری کو پوری طرح بھاکر بھی دکھایا اور مخلوق خدا کی اس طرح حاجت روائی فرمائی کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قادر ہے تو عرض کرنیکا مقصد یہ تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخلوق خدا کی اس طرح مدد کی تو پھر خدائی بھی اپنے وعدہ کے مطابق انکی ایسی مدد فرمائی کہ قیصر و کسرائی کی عظیم سلطنتیں انکے قدموں میں آگئیں اور جس طرف انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھ لی بڑے بڑے تخت و تاج ان کیلئے فرش راہ بننے پلے گئے۔

اسکے علاوہ اسلام سے قبل بڑے بڑے سلاطین پر نظر ڈالی جائے تو وہاں بھی یہی چیز دکھائی دے گی کہ انہوں نے اسی چاحدہ کی وجہ سے اس طبق محتاجوں کی مدد کے اصول کو اپنی زندگی بنالیا اور اس کے ذریعہ دنیا پر حکومت کی چنانچہ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سکندر رذوالقرنین ایک روز صبح سے شام تک اپنا دربار لگا کر بیٹھا لیکن اس دن شام تک کوئی حاجت مند اپنی حاجت لیکر اس کے پاس نہیں آیا اسکا اسکوا تنا افسوس تھا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو اپنے مصاہبین سے کہنے لگا کہ آج کا دن میں اپنی زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ سب نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آج کا دن بڑے آرام اور سکون کا دن تھا، سلامت و کرامت اور طہانیت و فراغت کیسا تھا بسر ہوا پھر اس آرام اور پسکون دن کو آپ اپنی زندگی سے کیوں خارج کر رہے ہیں؟ تو اس عظیم فرمازدا نے جواب دیا کہ جس

دن بادشاہ سے کسی مظلوم کو راحت نہ پہنچے، کسی محروم کی حاجت پوری نہ ہو میرے
زندگی وہ بیکار دن عزیز زندگی میں شمار کرنے کے بھی قابل نہیں۔ کسی شاعر نے
فارسی میں اس مضمون کو یوں ظاہر کیا،

عمر آں قدر پیش آبند بکار کہ در نفع خلق خدا بگذرد
در آں زندگانی چہ حاصل بود کہ در کار نفس و ہوا بگذرد

ہمدردی اور حاجت روائی کا وہ زریں اصول جسے اپنا کر بڑے بڑے
سلاطین وقت نے اپنی سلطنت کو عروج اور ارتقاء بخشاہ مارے مذہب نے بھی اسی
کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسکے دائرے
کو وسیع سے وسیع تر کر دیا کہ اگر تم کسی کی سفارش کر کے اسکی مدد کرو گے تو تمہیں
بھی ثواب ملیگا (صحیح بخاری کتاب الادب باب تعاون المسومنین و باب قول اللہ
من يشفع شفاعة حسنة) یعنی کسی درد مند اور حاجتمند کی مالی یا بدنسی علمی، اخلاقی،
انفرادی یا اجتماعی مدد کر کے ثواب حاصل کرنا توبہ کی بات ہے اگر صرف ہونٹ
یا قلم ہلا کر کسی کی سفارش میں دو بول بول کر یا لکھ کر کسی کی مدد کریگا تو بارگاہ خداوندی
میں وہ بھی مقبول و محمود اور لا کم اجر و فضیلت بن جائیگا۔

بھیک مانگنے کی مدت

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب انصاری حضور سرور کائنات فخر موجود است صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے کسی چیز کا سوال کیا آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ اہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بچھوٹا ہے جس کا کچھ حصہ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ حصہ بچھا لیتا ہوں اور ایک پانی کا پیالہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں، آپ نے فرمایا اچھا یہی دونوں چیزیں ہمارے پاس لے آؤ، جب وہ اپنا بوسیدہ اور پھٹا پرانا بچھوٹا اور ایک شکستہ پیالہ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان سبکو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ان چیزوں کو فروخت کرتا ہوں تم میں سے کوئی ان کو خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو دودر ہم میں خریدتا ہوں، آپ نے پھر صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا کوئی شخص دودر ہم سے زیادہ اسکے دام لگائے گا؟ یہ سن کر اور ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے دودر ہم سے زیادہ اس کے دام لگائے۔

اس پر آپ نے یہ چیزیں ان کو فروخت کر دیں اور ان سے جو رقم حاصل ہوئی وہ اس انصاری کو دے دی اور فرمایا کہ اس میں سے ایک در ہم کا کھانا خرید کر گھر میں دے دو اور باقی پیسوں سے رسی خرید کر لا و اور جنگل سے لکڑیاں اس سے باندھ کر لا یا کرو اور شہر میں لا کر ان کو پیچ دیا کرو۔ یہ انصاری صحابی حضور اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل شروع کر دیتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد جب دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس حال میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پندرہ درہم کی کثیر رقم ہوتی ہے جس سے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے کچھ کپڑے اور غلہ خریدتے ہیں ان کی اس خوشحالی کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤ یہ اچھا ہے؟ یا یہ اچھا تھا کہ کل قیامت کے دن تم اس طرح اٹھتے کہ تمہارے چہرے پر گدائی کا بدنماد اغ لگا ہوا ہوتا (سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب ماتتجوز فیہ المسئلة)۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ ”گدائی“ اور سوال کرنا اسلام کی نگاہ میں استدرفتیج اور گھناؤنا فعل ہے کہ مجبوری اور فاقہ کی حالت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی، یہی وجہ ہے کہ وہ انصاری غریب صحابی جن کے پاس نہ کھانے کو تھانہ پہنچنے کو نہ اوڑھنے کو تھانہ پچھونے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سوال کرنے اور مانگنے کی اجازت نہ دی بلکہ ان کو کام پر لگا کے امت مسلمہ کو یہ سبق دے دیا کہ جب تک جسم میں طاقت اور رگوں میں خون ہے کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔

دانائے سبل اور ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے گدائی اور بھیک مانگنے سے جو اس قدر امت مسلمہ کو روکا حتیٰ کہ بعض مقامات پر یہ تک فرمادیا کہ جو شخص مانگ کر حاصل کریگا اور سوال کر کے کھائیگا وہ حرام کھائیگا۔ (سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ

باب ماتتجوز فيه المسألة) تو گذاگری کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخت اور شدید روایت کی بہت سی وجہات ہیں جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مذہب اسلام میں عزت نفس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اسلام یہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی برکرے یہی وجہ ہے کہ ہم کو صرف ایک ذات بحق کے آگے سجدہ زین ہونے کا حکم دیا اور دوسرے تمام سجدوں سے منع کر دیا کہ مٹی کی مورتیوں، پتھروں کے مجسموں یا شس و قمر اور گائے بیلوں کے آگے سر کو جھکانے میں ہماری عزت نفس مجرود ہو جائے۔

اور صاف فرمادیا کہ "لیس للمؤمن ان يذل نفسه" (مجمع الزوائد ص ۲۷۲ ج ۷، جامع مسانید ابوحنیفہ ۱۲۵) کہ کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل درسا کرے اسکی طرح اگر ہم اسلام کے دیگر احکامات پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی ہمیں یہی اصول کا فرقہ نظر آئے گا، مثلاً فاشی، عریانی، زنا کاری، شراب نوشی، جوا اور شہ بازی اور ان جیسے دیگر منہیات کے حرام ہونے میں یہی حکمت اور مصلحت ہے کہ یہ چیزیں انسان کی عزت نفس اور اس کی خودداری کو ختم کر دیتی ہیں لہذا اسلام میں اسکو حرام کر دیا گیا۔

الغرض اسلام میں عزت نفس اور خودداری کا بڑا مقام ہے اور یہ عزت نفس اور خودداری گداگری اور بھیک مانگنے میں پاش پاش ہو جاتی ہے انسان کی حمیت اور غیرت کے تمام شیشے چکنا چور ہو جاتے ہیں وہ دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ہزار لوگوں کے طعنے سنتا ہے، سینکڑوں کی جھڑکیاں سہتا ہے، گھروں سے دھکے دیکر باہر نکالا جاتا ہے، پھر بھلا ایسی صورت اور حالت میں اسکی عزت نفس کہاں برقرار

روہ سکتی ہے اسکی لئے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فعل کی شدت کے ساتھ ممانعت فرمادی جو انسان کی عزت اور حرمت کو پامنال کر دے۔ اور سوال کرنے کو حرام قرار دیکر مجبوری کی حالت میں بھی اس سے منع کر دیا تاکہ کہیں مسلمان کی "عزت" کا آگبینہ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔

اب ذرا وہ لوگ غور کریں جو تند رست اور صحبت مند ہوتے ہوئے، مال و دولت ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگتے ہیں وہ اسلام کی نظر میں کتنے سخت جرم کے مرتكب ہو رہے ہیں۔ اسکے علاوہ سوال کی ممانعت میں اقتصادی اور معاشی خوشحالی کا راز بھی مضر ہے اس لئے کہ اگر لوگ بیکار اور بے مقصد بھیک مانگتے رہیں گے تو وہ ملک اور معاشرے پر ایک بوجھ بن جائیں گے۔ لیکن اگر وہ کسی کام میں لگ جائیں گے مزدوری یا کوئی اور پیشہ تجارت وغیرہ کر کے اپنا پیٹ پالیں گے تو نہ صرف کہ وہ خوشحال ہو نگے بلکہ اس سے ملک خوشحال ہو جائیگا اسلئے کہ ملک کے کاروبار، تجارت، صنعت و حرفت میں ترقی ہوگی اور اس طرح ملک و ملت ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں گے۔

وصیت کے احکام

وراثت کے احکامات اور وارثوں کے مقررہ حصوں کے بیان سے قبل قرآن نے تقسیم دولت کیلئے وصیت کو ہر مسلمان کیلئے لازمی اور فرض قرار دیا۔ لیکن ناگہانی موت کی صورت میں وصیت نہ کئے جانے کے باعث بڑی مشکلات پیش آ جاتی تھیں مثلاً رثیۃ داروں میں جو بھی زور آ در ہوتا تھا وہ ہی مرنے والے کے تمام مال پر قابض ہو جاتا تھا لہذا وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہوا اور آیہ کریمہ نازل ہوئی "يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثِيَّنَ" ان متعدد آیات میں وارثوں کے من جانب اللہ حصے مقرر کردئے گئے لیکن وصیت کو پھر بھی جائز رکھا گیا۔ اسلئے کہ اکثر مرنے والے کے بعض متعلقین ایسے ہوتے ہیں جو اسکے اپنے رشتہ داروں اور وارثوں سے زیادہ اسکے خدمت گزار اور اسکے محسن ہوتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت سے انکو بھی کچھ حصہ ملے تاکہ اس طرح انکا کچھ حق خدمت بھی اداء ہو جائے اور انکے احسانات کا کچھ انکو بدلہ بھی مل جائے۔ اسلئے شریعت نے وصیت کو تہائی مال میں جائز رکھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے ان اپنے دوستوں اور محسنوں کو بھی اپنے مال میں سے حصہ دے سکے، جن کو رشتہ داری کی بناء پر شرعی طور سے حصہ نہیں مل سکے۔

اس کے علاوہ وصیت کے جائز رکھنے کی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسکے مرنے کے بعد اسکا پیسہ کسی نیک دینی اور فلاحی کام میں لگ جائے تاکہ جب تک وہ نیک کام دنیا میں ہوتا رہے ہمیشہ ہمیشہ اسکا ثواب اسکو ملتا رہے اور اسکی آخرت سنور جائے لہذا اس نیک خواہش کی تکمیل کیلئے شریعت نے اسکو اسکے مال میں وصیت کی اجازت دی لیکن اس صورت میں دوسرے ورثاء کی حق تلفی

نہ ہونے پائے اسکے لئے شریعت نے وقیدیں لگادیں پہلی توبہ جسکے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ ”ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلاؤصية لوارث“ (مشکوہ بحوالہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ ۲۶۷) اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق اور اس کا حصہ عطا فرمادیا یعنی رشتہ داروں کے حصہ مقرر فرمادیے لہذا اب وصیت نہیں کی جائیگی کیونکہ جب انکے حق اور استحقاق کے مطابق شریعت نے ان کا حصہ انکو دے دیا تو پھر انہیں میں سے بعض کیلئے وصیت کے ذریعہ مزید مال دیکر دوسروں کی حق تلفی کرنے سے کیا فائدہ۔

لہذا شرعی وارثوں کیلئے وصیت نہ ہوگی اور دوسرا اصول یہ ہے کہ شرعی وارثوں کی حق تلفی بھی نہ ہونے پائے یعنی مرنے والے کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا تمام کا تمام مال راہ خدا میں یا کسی اور اپنے دوست اور عزیز کو وصیت میں دے جائے، اسکے لئے شریعت نے تہائی مال کی حد مقرر فرمادی کہ اس سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہو سکتی چنانچہ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوانبی روٹ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے اور مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اپنے مال کی وصیت کر دی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا کتنے مال کی وصیت کی ہے؟ عرض کیا کہ اپنا تمام مال میں نے راہ خدا میں دینے کی وصیت کی ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد کیلئے کیا چھوڑا انہوں نے عرض کیا حضور وہ تو خود دولت مند اور غنی ہیں انہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ فرماتے ہیں تو میں ان کیلئے اپنے مال میں سے دو میں حصے کی وصیت کر دیتا ہوں جب آپ نے انکا فرمایا تو انہوں نے آخر میں عرض کیا کہ پھر میں تہائی مال کی وصیت کر دوں آپ نے فرمایا ہاں ان کے لئے بہت رہیگا۔ (صحیح بخاری جلد اول کتاب الوصایا)

عدل و انصاف

مند احمد کی ایک روایت ہے کہ ”ابو حدرہ“ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مغلوک الحال صحابی تھے جنکی غربت کا یہ عالم تھا کہ سوائے بدن کے کپڑوں کے ان کے پاس اور کچھ نہ تھا، انہوں نے ایک یہودی سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، ایک روز یہودی اپنا قرضہ لینے کے لئے ان کے پاس آیا اور اپنے پیسے طلب کئے، آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا جس سے اس کا قرض اتنا تھے لہذا دو تین روز کی اس سے مہلت مانگی لیکن وہ یہودی دو تین روز کی مہلت دینے پر کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا۔

آخر یہ معاملہ حضور کی بارگاہ عدل و انصاف میں پیش ہوا، آپ نے حضرت اسلامی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس کا قرض ادا کرو، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہوا نئے تن کے کپڑوں کے، غزوہ خیبر قریب ہے شاید وہاں سے واپسی پر کچھ مال غنیمت ملے تو میں اس سے اس کا قرض ادا کر دوں گا، آپ نے انکے اس عذر کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کا قرض ابھی ادا کرو، راوی کا بیان ہے کہ جب بارگاہ نبوت سے ان کے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا تو اس فیصلے پر حضرت اسلامی نے سرتسلیم خم کرتے ہوئے اپنا تہبند اتنا کر اس یہودی کو فوراً قرض میں دے دیا، اور سر سے اپنا عمامہ کھول کر اپنی کمر سے لپیٹ لیا۔ (مند احمد ج ۳ ص ۲۲۳ بجم صغیر طبرانی)۔

یہ ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ کا عدل و انصاف جس نے دشمنوں کو بھی اسلام اور باشی اسلام کا گرویدہ بنادیا تھا۔ اگر آنحضرت چاہتے تو اس یہودی سے دو چار دن

کی مہلت کے لئے فرماسکتے تھے اور آپ کی یہ سفارش بے جا بھی نہ ہوتی اس لئے کہ اس وقت حضرت اسلمی کے پاس کچھ نہ تھا جس سے وہ اس کا قرض اتنا رتے، لیکن اپنے محبوب صحابی کی کوئی رعایت نہ کی اور اس کے لئے چند دن کی مہلت بھی طلب نہ کی تاکہ آنے والا موئرخ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ ”عدل و انصاف“ کے اس علمبردار نے اس فیصلے میں بیگانوں کے مقابلے میں اپنوں کا پاس رکھا ہے اور ان کی رعایت کی ہے، بلکہ تن کے کپڑے ایک یہودی کے قرض میں اتردا کرتا رخ میں عدل کی ایک مثال قائم کر دی۔

ذراغور کریں وہ لوگ جو اپنے دوستوں اور بھائیوں کے قرض لئے بیٹھے ہیں اور استطاعت و ہمت کے باوجود ان کے قرض ادا نہیں کرتے، عدل مصطفیٰ کا تو یہ تقاضا ہے کہ اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو تن کے کپڑے اتنا رکھ قرض دار کا قرضہ ادا کیا جائے نہ کہ یہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس کا قرضہ نہ ادا کیا جائے اور اس کو خواہ مخواہ پر بیشان کیا جائے۔ اسلامی نظام میں ”عدل“ کا لفظ ایک ہمہ گیر و سعیت کا حامل ہے۔ اس کا مفہوم صرف عدالتی نظام میں انصاف کے قائم کرنے تک محدود نہیں بلکہ معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور سماجی ہر قسم کے امور میں انصاف اور اعتدال پیدا کرنے میں مستعمل ہے۔

چنانچہ قرآن پاک نے متعدد مقامات پر زندگی کے مختلف مگر اہم شعبوں میں عدل و انصاف کا حکم دیا، مثلاً معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک سے زائد بیویوں کے شوہر ہیں لہذا ایسے لوگوں کو سورۃ النساء میں حکم دیا جاتا ہے کہ ”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو

کہ تم کئی بیویوں میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی سے شادی کرو، اسی طرح معاشرے میں قیمتوں کا مسئلہ بھی بڑا نازک ہے، اکثر قیمتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے ساتھ بے پرواہی اور بے اعتنائی برقراری جاتی ہے لہذا قیمتوں کے متعلق بھی اسی سورۂ النساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”قیمتوں کے حق میں انصاف ملحوظ رکھو“، اسی طرح معاشری اور اقتصادی نظام میں سب سے اہم چیز خرید و فروخت اور لین دین ہے جس سے ہر شخص کو وابستہ پڑتا ہے، کون ایسا شخص ہے جو اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بازار چاکر لین دین اور خرید و فروخت میں مصروف نہیں ہوتا اب اگر لین دین کے معاملے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے اور ناپ قول میں کمی کی جانے لگے تو اس کا نقصان صرف ایک یادو اشخاص تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری قوم اس نقصان سے دوچار ہو گی، استحصال بڑھتا چلا جائے گا اور معاشری ناہمواری پوری افغانیت کو اپنے شکنے میں جکڑ لے گی، لہذا اس عظیم نقصان سے انسانیت کو بچانے کے لئے قرآن نے وزن اور پیانہ میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا اور سورۂ انعام میں حکم ہوا کہ انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور پورا پورا قولو۔

عدالتی معاملات میں ”عدل و انصاف“ کے متعلق قرآن و حدیث نے مختلف امور کا ذکر فرمایا جس میں سب سے اہم ”عدل“ کا ایک یہ زریں اصول بیان فرمایا ”و اذا قلتם فاعدولوا ولو كان ذا قربى“ کہ اگر کوئی ہی دینی ہو یا فیصلہ کرنا ہو جب بھی کوئی بات کہو تو ہمیشہ انصاف کی بات کہنا اور عدل سے کام لینا اگرچہ تمہارا قربت دار ہی کیوں نہ ہو یعنی رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہ کرنا بلکہ

جو حق ہو وہ کہنا۔ اسی طرح اس زمانہ میں یہ رواج تھا کہ جو دولت مند اور عزت والے ہوتے تھے ان کے ساتھ فیصلہ کرتے وقت رعایت برتنی جاتی تھی اور عام لوگوں کے ساتھ سختی برتنی جاتی تھی، لیکن اسلام نے اس تفریق کو ختم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ خدا کے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں خواہ وہ امیر ہو یا کبیر، وزیر ہو یا سفیر، جو جرم کرے گا سب کو یکساں سزا ملے گی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غریب چوری کر لے تو اس کے توہا تھکاٹ دئے جائیں لیکن اگر کوئی امیر و کبیر، یا سفیر و وزیر چوری کریں بلکہ ڈاکہ ڈالتے پھریں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ ہیں اسلامی نظام کی خصوصیات جنکو چھوڑ کر ہم اس نظام کی برکات اور فوائد سے کبھی مستفید نہیں ہو سکتے۔

بیتیم کی پروردش

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور کسی بیتیم بچے کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں دو انگلیوں کی طرح قریب ہونگے۔ (صحیح بخاری باب فضل من یعول بیتیما، صحیح مسلم باب فضل الاحسان ابی البیتیم) دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد والا کا مقصد لوگوں کو بیتیموں کی نگہداشت اور ان کی کفالت کی طرف ترغیب دلانا تھا کیونکہ بیتیم ایک ایسی مظلوم اور معصوم ذات ہے جس پر ہر دور میں ظلم ہوتا رہا اور کسی مذہب نے ہمدردی و نغمگساری، امداد و پروردش کے بارے میں ان کو وہ حق نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے، جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عشر اور زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست میں صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ بیتیم کا نام نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکم ان کے متعلق نہیں ملتا، جب انجیل پر نظر ڈالتے ہیں تو اس بیچاری مظلوم ذات کا ہمیں سرسری ساز کر بھی نظر نہیں آتا اور جب قبل از اسلام زمانہ جاہلیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بیتیم کا ذکر ضرور ملتا ہے لیکن اس کے متعلق ایک ایسی درودناک داستان ملتی ہے جس کو پڑھ کر ایک دردمند انسان کلیجہ تھام کر رہا جاتا ہے۔

قرآن ان کے اس بہیانہ سلوک کی اس طرح تصویر کشی کرتا ہے کہ ”فَذالك الذي يدع اليتيم“ یہ وہ لوگ ہیں جو بیتیم کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ بیتیم کے بارے میں انہی عرب کے وحشیوں کی ایک اور سفا کا نہ طرز کو

قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ ”و تاکلون التراث اکلا لا“ یعنی یہ لوگ تیمیوں کے جوان ہونے کے ڈر سے ان کے باپوں کا مال اور جائد ا جلدی جلدی کھاپی کر ہضم کر جایا کرتے تھے تاکہ یہ بڑے ہو کر اپنے مال کھیں طلب نہ کر بیٹھیں، الغرض باپ کے سائے سے محروم ان بچوں پر جب ظلم کی انتہا ہو گئی، جب یہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود ان کے چھوٹے سے وجود کے لئے تنگ پڑ گئی تو اس رب العالمین نے آمنہ کے لال، عبد اللہ کے درتیم کو رحمۃ للعالمین بناء کر بھیجا جس نے ان مظلوم بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنی پیار بھری باتوں سے جوڑا، ان کے زخموں کو اپنی تعلیمات سے مندل کیا، اور یہ اعلان فرمائ کہ ”قیامت کے دن میں اور کسی تیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں دوالگیوں کی طرح قریب ہونگے، لوگوں کو تیمیوں کے حقوق سے اور مقام سے نہ صرف آشنا کر دیا بلکہ تیمیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی کفالت کرنے کا شوق لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ تیمیوں کے حقوق کی نگہداشت کے لئے وقا فو قمازیدہ حکامات سے روشناس کرایا جاتا رہا، چنانچہ سورۃ نساء کی متعدد آیات میں سب سے پہلے ان تیمیوں کو وراشت کا حق دلایا گیا ہے جس کوشقی القلب و حشیوں نے ختم کر دیا تھا، اس کے بعد جو جاہلیت کے زمانہ میں تیمیوں کی کفالت کا ذمہ لیکر ان کا تمام پیسہ ہضم کر جایا کرتے تھے ان کے لئے حکم ہوتا ہے کہ تیمیوں کو ان کے وارثوں کا چھوڑا ہوا مال دے دو، ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلوا اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھاؤ کہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔

اس کے علاوہ اسی سورۂ النساء میں ان کے متعلق مزید ہدایات یہ کی جاتی ہیں کہ ان کے مال کو اسراف سے خرچ نہ کرو اور جب تک ان کو پورا شورۂ آجائے اس وقت تک ان کی رقم ان کے حوالے نہ کرو کیونکہ اگر ان کا مال بچپن میں ان کے حوالے کر دیا تو ابھی نا سمجھ ہیں سب کچھ لٹا کے بیٹھ جائیں گے لہذا ان کو جانچتے رہو، جب یہ سمجھ لو کہ اب ان کی عقل پختہ ہو گئی ہے تو پھر ان کی امانت ان کے پرد کر دو اور ان کے بڑے ہونے تک ان کے اس مال اور ان کی اس امانت کو کس طرح رکھو اس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ "وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْمِنْهَىٰ هُنَّ أَحْسَنُ" یعنی یتیم کے مال کی ایسی نگہداشت کرو کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کو ہاتھ تک نہ لگاؤ، ہاں اگر اس ہی کی بھلانی کے لئے استعمال کرو تو کر سکتے ہو ورنہ بری نیت سے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔

الغرض قرآن و حدیث کی ان تعلیمات نے یتیموں کے متعلق وہ شفقت اور محبت کے جذبات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دئے کہ اب ہر شخص یتیموں کو محبت بھری انظروں سے دیکھنے لگا، پھر تو تعلیمات مصطفیٰ نے فضا کو ایسا بدلا کر وہ ہی وحشی جو یتیموں کو دھکے دیکر باہر نکال دیا کرتے تھے اب وہ ہی شفقت و محبت سے اپنے گھروں میں یتیموں کی پرورش کرنے لگے، حضور کی ترغیب دلانے کا یہ اثر ہوا کہ ایک ایک یتیم کے لئے کئی کئی رحمت و شفقت کے ہاتھ بڑھنے لگے، ہر ایک اصرار کرتا تھا کہ اس یتیم کو میرے پرد کر دیجئے تاکہ اس نیکی کو حاصل کر کے خدا کا مقرب بن جاؤ۔

تاریخ میں آتا ہے کہ پھر تو یہ عالم ہوا کہ ہر صاحبی کا گھر یتیم خانہ بن گیا تھا،

جہاں ہر ایک صحابی کسی نہ کسی یتیم کی بڑی محبت و شفقت کے ساتھ پرورش کر رہا تھا اور اس پر فخر محسوس کرتا تھا۔ (صحیح بخاری باب عحدۃ القضاۃ) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا تو یہ حال تھا کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک ان کے دسترخوان پر ان کے ساتھ کوئی یتیم بچہ نہ ہوتا تھا۔ (ادب المفرد لامام بخاری باب فضل من يعول یتیما) خود رسول کے گھرانے سے ایک معزز خاتون ام المؤمنین حضور کی لاڈلی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یتیموں کے متعلق حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا اور اپنے خاندان کے علاوہ انصار کی یتیم لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جا کر ان کی بڑی محبت اور شفقت سے پرورش کر کے تاریخ عالم میں ایک مثال قائم فرمائی۔ (مؤطا امام مالک کتاب الزکوة / سند احمد ج ۶ ص ۲۶۹ / تذکرة الحفاظ لذہبی ج ۶ ص ۳۲)

تجارت میں جھوٹ فسیلیں کھانا

حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نہ ان کو پاک کریگا اس دن ان کیلئے دردناک عذاب ہو گا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کیا کہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم اس قدرنا کام اور ٹوٹے میں رہنے والے ایسے کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے نیچے لٹکای گا، دوسرا وہ شخص ہے جو کسی پر احسان کر کے اس کو جاتا پھر یگا اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ فسیلیں کھا کر اپنامال نیچے گا، (سنن ابو داؤد، کتاب اللباس باب ماجاء فی اسبال الازار، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی) اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جھوٹ فسیلیں کھا کر اپنے مال کو فروخت کرنا سخت گناہ ہے، اور کیوں نہ ہوا سلسلے کے عرف جھوٹ بولنا، ہی اسلام میں ایک گناہ نافع شمار کیا جاتا ہے بلکہ تمام برائیوں کی جڑ مانا جاتا ہے چنانچہ ارشادربانی ہے کہ "ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار" کہ جو شخص جھوٹا اور احسان فراموش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسکوراہ ہدایت نہیں دکھاتا تمام نیکیوں کے دروازے اس کیلئے بند ہو جاتے ہیں۔

اور برائیوں اور شروع کے راہ اس کے لئے کھل جاتے ہیں حتیٰ کہ کفر تک وہ پہنچ جاتا ہے چنانچہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ دوزخ میں پہنچانے والا کام کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام

کریگا جب گناہ کے کام کریگا تو کفر کریگا تو دوزخ میں چلا جائیگا (مند احمد جلد ۱، ص ۱۷۶) یہی وجہ ہے کہ لعنت بھیجا جو کافروں اور مشرکوں کیلئے ہوتا ہے وہ اگر مسلمانوں میں کسی پرواہ ہے تو وہ جھوٹ بولنے والے پر ہے، خود قرآن کا رشاد ہے کہ ”فَنَجِعْلُ لِعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ“ تواب ذرا غور فرمائیے کہ جب کسی عام شخص سے جھوٹ بولنا اتنا سخت جرم ہے اور اسکی اتنی قباحتیں ہیں تو پھر جھوٹی قسمیں کھانا کس قدر ہبہت ناک جرم ہوگا اور اسکے کتنے ضرر سارے اثرات ہوں گے اسلئے کہ کسی چیز پر قسم کھانا درحقیقت اس بات کی صداقت اور سچائی پر خدا کو گواہ بنانا ہوتا ہے اول تو کسی دنیوی بات پر اور لین دین کے معاملات پر سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہئے اسلئے کہ اس حقیر اور ذلیل دنیا کا اتنا مرتبہ نہیں کہ خدائے بزرگ دبرتر کے نام سے اسکی تردیج و اشاعت کی جائے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خرابی ہے سو دا گر کیلئے ان کلمات کے کہنے میں کہ بلی، واللہ، لا واللہ، توجب ایک مسلمان کیلئے تجارت اور دیگر دنیوی معاملات میں سچی قسم کھانا بھی رو انہیں تو پھر جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی بات پر خدا کو گواہ بنانا کس قدر الم ناک اور لرزہ خیز جرم ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ایسی جھوٹی قسموں کی بہت برا بیان آئی ہیں حتیٰ کہ ایک مقام پر سور کائنات روحي فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کا شمار شرک اور قتل جیسے عظیم گناہوں کیسا تھا کیا (جامع ترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في حقوق الوالدين) اور ایک مقام پر یہاں تک فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم کھا کر لینا چاہیگا تو اللہ تعالیٰ اسپر دوزخ کی آگ کو دا جب کر دیگا (صحیح مسلم، کتاب الایمان باب وعید من اقطع حق مسلم یہاں) اور پھر

جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچنے والے تا جروں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ان جھوٹی قسموں سے انکو دنیا کا بھی کوئی خاص نفع حاصل نہیں ہو سکے گا بلکہ نقصان ہی ہو گا، کیونکہ اس صادق اور امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور آپ نے یہ فرمادیا ہے کہ ”فَإِنْفَقْتُ ثُمَّ يَمْحَقُ“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد کتاب البیوع باب فی کراہیۃ الیمین فی البیع)۔ ”کہ جھوٹی قسمیں مال کو بکوا تو دیں گی مگر نفع یعنی برکت کو گھٹا دیں گی،“ روحانی طور پر اس کے مال سے جو برکت ختم ہو گی اور ہمیشہ کی فراوانی کے باوجود اسکو جو تنگی آئیگی وہ تو ہے ہی چنانچہ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سا ہے کہ نہ معلوم کیا بات ہے اسقدر ہم کہاتے ہیں لیکن وہ یکدم ختم ہو جاتا ہے، نہ معلوم اتنا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے ہماری ضرورتیں توجوں کی توں رہ جاتی ہیں اور پیسہ سب کا سب غالب ہو جاتا ہے ان لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے کاروبار اور اپنے پیسے میں غور کریں کہ اسکیں وہ کہاں کہاں بے ایمانی کرتے ہیں اور کہاں کہاں خدا کی نافرمانی سے پیسے حاصل کرتے ہیں اگر کہیں کوئی اس قسم کا معاملہ نظر آئے تو وہ اس کو خود ختم کر دیں پھر دیکھیں کہ اگرچہ وہ تحوزے پیسے ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ اسکیں بھی اتنی برکت دے دیگا کہ اس حقیر اور چھوٹی سی رقم میں ہی اسکی تمام جائز ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ مختصر سے پیسے اسکے حرام کے ہزاروں روپوں پر بھاری ہو جائیں گے اس کے علاوہ ظاہری طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اس طرح ظہور ہو گا کہ اس پر سے اعتماد اور اعتبار اٹھتا چلا جائیگا آخر لوگ اس کی بے ایمانی کے باعث اس سے لین دین کم کر دیں گے یہاں تک کہ اسکی حالت بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائیگی۔

حلال کمائی

بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو جسم حرام غذاء پر درش پایگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا“، (مشکوٰۃ بحوالہ بیہقی فی شعب الایمان کتاب البیوع باب الکسب و طعم الحلال) اس حدیث مبارکہ میں ”رزق حلال“ کے حصول کی جوتا کیدیں کی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکیزہ اور حلال رزق، نفس انسانی کے ارتقاء اور اس کے روحانی ارتقاء اور اس کے روحانی اطمینان و سکون اور ترقیات کا سبب بنتا ہے، آج اس ترقی یافتہ دور میں ہر شخص جسمانی صفائی اور ظاہری نمود و نمائش و چہرہ مہرہ اور لباس و بدن کو تو پاک و صاف رکھنے میں ہر وقت مصروف رہتا ہے لیکن افسوس روحانی، پاکیزگی اور باطنی طہارت و صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، حالانکہ اسلام نے ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسانی پاکیزگی پر بھی بہت زور دیا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ”یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلا لا طیبا“ فرمाकر ظاہری پاکیزگی کے ساتھ حلال کے لفظ سے باطنی پاکیزگی کا بھی ذکر فرمایا یعنی اپنے ایمان والوں کو یہ ہدایت کر دی کہ جو تم رزق کھاؤ وہ ظاہری طور پر بھی ظاہری گندگی اور خرابیوں سے پاک ہونا چاہئے تاکہ تمہاری جسمانی صحت پر براثرنہ پڑے اور تمہارا جسم صحیح نشوونما پاسکے، اسی طرح وہ تمہارا رزق باطنی نجاستوں اور گندگیوں سے بھی پاک ہونا چاہئے، وہ تمہارا رزق چوری، ڈاکہ، زنی، رشوت، جوے یا سود وغیرہ سے حاصل کیا ہو انہیں ہونا چاہئے یا دیگر اسلام کی حرام کی ہوئی اشیاء مثلاً شراب، افیون، بھنگ، مردار یا حرام جانوروں پر

مشتمل نہیں ہونا چاہئے تاکہ تمہاری جسمانی صحت اور باطنی صفائی متأثر نہ ہونے پائے اور تمہارا ضمیر مردہ نہ ہو جائے، اس لئے کہ معاشرہ کی تمام برا بیوں کی جڑاصل اسی انسانی ضمیر اور دل کا مردہ ہونا ہے اگر یہ مردہ ہو گیا تو پھر اس قوم کو فناشی، عریانی، ظلم رسانی، رشوٹ ستانی الغرض کسی بھی بڑے سے بڑے جنم سے اسے کوئی نہیں روک سکے گا اور وہ قوم تزلی اور ابتری کا شکار ہوتی چلی جائیگی، اسی لئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ:

دلِ مردہ دل نہیں اسے زندہ کر ڈو بارہ

کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ

اس کے علاوہ حلال اور جائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت معاشرہ کے لئے بھی آسودگی، اطمینان اور راحت کا سبب بنتی ہے اور خود اس کے کمانے والے کے لئے بھی، اسلئے کہ ناجائز معاشی استھان کے باعث غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہوئی تمام دولت سمٹ کر جب چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو غریبوں کے انتقام کی آگ ان دولتمندوں کے عشرت کدوں کو ایک نہ ایک دن جلا کر خاکستر کر دیتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی ملک اسی معاشی زبوبی حالی کے سبب سرخ انقلاب کی آما جگاہ بن گئے، اور اسی کے باعث کتنی حکومتیں صفحہ ہستی سے مت گئیں اس کے برخلاف حلال ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت کے سبب نہ کمانے والا کسی غریب کی انتقامی کارروائی کا شکار ہوتا ہے نہ اسے کسی قانونی گرفت اور سزا کا خوف ہوتا ہے نہ وہ اس جہاں اور اس جہاں میں جواب دہی کے ڈر سے ہر وقت پریشان حال رہتا ہے اور نہ معاشرہ میں کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے بلکہ ہر شخص آسودہ حال آرام کی زندگی برکرتا ہے۔

کسب حلال

نذهب اسلام انسان کو مال و دولت کمانے سے نہیں روکتا بلکہ وہ تو اسکونکا بیٹھ کر صرف روئی توڑتے رہنے سے منع کرتا ہے اور روزی کمانے کو اسکے لئے فرض قرار دیتا ہے لیکن وہ اسکے ساتھ شرط ضرور لگاتا ہے کہ وہ روزی حلال، جائز اور شریعت کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کمائی جائے چنانچہ آنحضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ "طلب کسب حلال فریضة بعد الفریضة" (مشکوٰۃ بحوالہ تیہقی فی شعب الایمان) فرضوں کے بعد ایک فرض حلال روزی کمانا ہے یہاں حلال کی قید اسلئے لگائی گئی کہ حلال طریقوں اور جائز راستوں سے حاصل کیا ہوا رزق ہی انسان کی دینی اور دینی ترقیات کا موجب اور سبب بنتا ہے اگر کسب حلال نہ ہو تو خواہ وہ کتنی ہی کوٹھیوں، بنگلوں، کاروں، اور زمینوں کا مالک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسکا بینک بیلنس کیوں نہ ہو ایسا شخص نہ صرف یہ کہ آخرت کے فضائل و درجات کو کھو کر اپنے لئے جہنم کے دھکتے ہوئے انگارے تیار کر لیتا ہے بلکہ وہ دنیا میں اخلاقی گراوٹ اور رذائل کا بھی شکار ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ حرام رزق کی خصوصیت ہے کہ وہ جب جسم میں پہنچتا ہے تو وہ آدمی کے اسلامی اوصاف و فضائل اور انسانی احساسات و جذبات کو آہستہ آہستہ فا کر دیتا ہے جسکا واضح نتیجہ اخلاقی اور روحانی تنزلی کی صورت میں ملتا ہے، اسکی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت دلاتے ہوئے فرمایا کہ حرام روزی سے بنے ہوئے خون کے لئے یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ

آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ: کوئی کپڑا اگر خریدا جائے اور اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا ہو تو اس کپڑے کو پہن کر آدمی جب تک نماز پڑھیگا اسکی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔

اسکے برخلاف رزق حلال انسان میں عمدہ خصائص کے پیدا ہونے، روحانی اور ذہنی ارتقاء کا سبب بنتا ہے جسکی طرف اس حدیث مبارک میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی جب حلال روزی کماتا ہے تو اس کا قلب نور سے معمور ہو جاتا ہے اور حکمت و عقلمندی اس سے پھونٹنے لگتی ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کہ جس پر انسان کی دینی اور دنیوی ترقیوں کا مدار ہے وہ بھی اسی رزق حلال پر موقوف ہے ذرا اس حدیث پر نظر ڈالئے جس میں حضرت سعد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا ربoul اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں یعنی میں جو دعا کروں وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جایا کرے اسپر آپ نے عظیم راز آشکارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کب حلال اختیار کرو تمہاری دعا میں قبول ہو جائیں گی۔ (التغیب) بہر حال پتہ یہ چلا کہ حلال کی روزی تمام نیکیوں، عمدہ خصائص، اور اعلیٰ فضیلتوں کے حصول کی کنجی ہے۔

اور اسکے برخلاف حرام کی کمائی تمام برائیوں، بری عادتوں اور ہر قسم کی تنزلیوں کی جڑ اور اساس ہے یہی وجہ ہے کہ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگوں نے حرام رزق کے معاملہ میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ فرمایا اور وہ چیزیں جو واضح طور پر حرام تھیں مثلاً۔ چوری یا ڈاکہ، کسی کا غصب شدہ مال یا سود

وغیرہ انکا تو لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ امور جو حلال تھے لیکن ان میں کچھ تھوڑا سا شبه بھی ہوتا تھا ان نیک بندوں نے اسکو بھی چھوڑ دیا ایسے تقوے کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مال غنیمت میں بہت سی مشک آئی حضرت عمر نے اسکو گھر میں لا کر رکھ دیا تاکہ دوسرے دن اس کو فروخت کر کے اسکی رقم تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے دوسرے دن جب آپ گھر میں آئے تو آپ کو اپنی بیوی کی چادر میں سے مشک کی خوبیوں آئی آپ کے استفسار پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کے کہنے پر مشک کو تو لا تھا تو ہاتھوں میں کچھ مشک لگ گیا تھا وہ میں نے چادر پر لگالیا تھا آپنے وہ چادر اتاری اور اسکو اتنا دھویا کہ اسکی خوبیوں اُن ہو گئی حالانکہ یہ چیز معاف تھی لیکن ان کے تقوے نے اس کو بھی گوارہ نہیں کیا۔

ملاوٹ اور دھوکہ وہی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلہ اچھا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے دیکھنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کو اپنے ہاتھ میں کچھ تری اور گیلا پن محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بیچنے والے سے فرمایا: یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! یہ غلہ بارش کی وجہ سے کچھ گیلا ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے اس بھیکے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تا کہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، پھر فرمایا کہ جو شخص دغا اور دھوکہ کریگا وہ ہم میں سے نہیں۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان باب من غش فلیس منا) ملاوٹ اور دھوکہ کرنے والوں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ایک ایسی وعید ہے جو ایک مسلمان کو ان ناجائز اور حرام امور سے باز رکھنے کے لئے کافی ہے، اسلئے کہ ایک مسلمان بکے لئے سب سے بڑھ کر قابل فخر اور لائق عزت چیز یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اقوام عالم میں اس کی سرخودی کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ دامنِ مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے اور فخر انبياء کے گروہ میں اور ان کی جماعت میں شامل ہے، اس کے لئے یہ تصور بھی روح فراسا اور قیامت انگیز ہے کہ حضور اسکو اپنی جماعت سے نکال دیں اور یہ فرمادیں کہ یہ ہم میں سے نہیں لہذا وہ ایسے گندے اعمال اور برے افعال کی طرف کبھی جانے کا

سوچے گا بھی نہیں اسکی اپنے آقا سے جدا یہی ہو جائے اور اسکو حضور یہ فرمائ کر اپنے سے دور کر دیں کہ ”یہ ہم میں سے نہیں“، تو چونکہ ”ملاوت اور دھوکہ دہی“، بھی ایسے قبیح افعال ہیں کہ جن کے مرتكب افراد کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں، لہذا ایک سچا مومن اور حضور کا شیدائی ان امور کا ارتکاب کرنا تو درکنار ان کے متعلق سوچے گا بھی نہیں۔

علاوه از یہ وہ شخص جو ملاوت، دھوکہ یا دیگر جرائم کا ارتکاب نہیں کرتا وہ حقیقت میں کامل مومن کہلانے کا مستحق ہے اسلئے کہ حضور نے کمال ایمان کی ایک نشانی اور علامت یہ بیان فرمائی کہ ”مومن کامل اپنے بھائی کیلئے وہ ہی پسند کرے گا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے“، (صحیح بخاری کتاب الایمان ج ۱ ص ۶) یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جامع اصول بیان فرمادیا ہے جو تمام جرائم اور اخلاق رذیلہ کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اسلئے کہ ایسا کون شخص ہے جو اپنی ذات کے لئے اشیائے خوردنی میں ملاوت کو پسند کریگا، کون ہے جو اپنے لئے پسند کریگا کہ کوئی شخص اسکو دھوکہ دے کون ہے جو اپنے لئے پسند کریگا کہ اسکو خراب مال نیگ لگا دیا جائے لہذا اگر وہ کامل مٹمن ہے اسکو چاہئے کہ وہ جو چیزیں اپنے لئے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کیلئے بھی پسند نہ کرے اور انکو دھوکہ اور فریب سے محفوظ رکھ کر اپنے کمال ایمان کا ثبوت پیش کرے۔

ہمارے اسلاف کے تذکرے ایسے کامل الایمان لوگوں کے حالات سے جگہ گار ہے ہیں جنہوں نے اپنے آقا مولیٰ نبی رووف و رحیم کے ارشاد اور مشاپر کامل عمل کر کے دکھایا چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے متعلق لکھا ہے کہ انکی

ایک کپڑے کی دکان تھی جس میں انکا نوکر کپڑے فروخت کرتا تھا دکان میں ایک کپڑے کا تھا جس میں عیب تھا ان کے نوکرنے ایک گاہک کو عیب اور نقص دکھائے بغیر پوری قیمت پر وہ کپڑا فروخت کر دیا اگر اس مقام پر آج کا تاجر ہوتا تو وہ خوشی سے کھل امتحنا لیکن حضرت امام اعظم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کا چہرہ غصہ سے تتمما اٹھا، آپ نے اپنے نوکر کو سخت سرزنش کی اور فرمایا کہ تم نے ایک مسلمان کو کیوں دھوکہ دیا اسکو عیب کے متعلق کیوں نہیں بتایا جاؤ یہ ساری رقم خیرات کر دو یہ ہے وہ کردار کی بلندی جس نے مسلمانوں کو ہمدوش ثریا کر دیا اسکے برخلاف آج ملاوٹ اور دھوکہ دہی کے باعث اسقدر اخلاقی پستی ہے کہ مسلمان قصر مذلت میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔

بے جا منافع خوری

بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جناب رسالت کا بصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے ایسے شخص پر جو فروخت میں آسانی اور زمی برتنے والا ہے (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح بخاری باب المسائلۃ فی المعاملۃ) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ کسی مال کی بے انتہا قیمت بڑھا کر اس پر بے جا اور بے تحاشہ منافع حاصل کر کے لوگوں کو مشکل میں بتلانہ کرو بلکہ ضرورت کے مطابق جائز منافع وصول کر کے مخلوق خدا پر آسانی کرو تو خدا تم پر آسانی کریگا اور تمہاری دینی اور دنیوی مشکلوں کو آسان کر کے اپنی ردائے رحمت میں تمکو ڈھانپ لیگا علاوہ ازیں اپنے مال پر جائز منافع حاصل کرنا کیوں نہ خدا کی رحمت اور رضامندی اور خوشنودی کا باعث بنے اسلئے کہ یہ عبادت انسان کو بہت سی برا یوں سے بچائیتی ہے اسکے نفس کو بہت سے اخلاق رذیلہ سے نجات دلادیتی ہے اور بہت سی عمدہ صفات سے اس کے نفس کو متصف کر دیتی ہے مثلاً: اگر ایک شخص ناجائز منافع خوری کرتا ہے تو وہ جھوٹ جیسی بُری اور لاکت ملامت اور قرآن کی رو سے قابل لعنت صفت کیسا تھا ضرور متصف ہو گا اسلئے گا کہ کو اس قابل فروخت چیز کی اصلی قیمت اگر صحیح بتا دی جائے تو وہ اس اصلی قیمت کو دیکھتے ہوئے اتنا زیادہ منافع دینے پر کبھی راضی نہیں ہو گا لہذا الاموال جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے اسکو اصل قیمت غلط بتا کر اسکی تسلی کرنی ہو گی تو اس طرح وہ اپنے اس ناجائز منافع کے حصول میں دو برا یوں کو حاصل کر کے

کامیاب ہوگا۔

ایک جھوٹ اور دوسرا ایک مسلمان کو دھوکہ اور فریب دینا، جبکہ دونوں ایسی صفت ہیں کہ اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک مسلمان کی یہ صفت ہی نہیں ہو سکتی اسکے علاوہ اگر گاہک کو اسکی باتوں پر یقین نہ آیا تو اسکو یقین دلانے کیلئے اس کو جھوٹی قسمیں تک کھانی پڑیں گی جو اس سے بھی بدتر گناہ ہے اور خدا کے قہر و غضب کا موجب ہے ایسا گناہ کہ جسکے لئے ارشاد رسول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص پر جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے نظر بھی نہیں ڈالیگا، (صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ) اور پھر ایک براہی اسکو یہ بھی کرنی پڑے گی کہ منافع حاصل کرنے کیلئے اپنے مال کی بیجا تعریف میں لغو کلام بھی کرنا پڑے گا اسکی اچھائیوں کے جھوٹے سچے قصیدے بھی پڑھنے ہونگے۔

اگرچہ اس وقت اس کو اس پنے طول طویل اور بے فائدہ کلام کا کچھ احساس نہیں لیکن کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے وقت اسکو ایک ایک کلمہ اور ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہو گا تب اسکو اس براہی کا احساس ہو گا اور اس وقت اسکو پتہ چلے گا کہ اس نے اتنے لغو اور بے فائدہ باتیں کر کے اپنے لئے کتنی مصیبت مول لے لی ہے، اور یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جسکا ہر شخص کو سامنا کرنا ہے۔

قرآن اس پر شاہد ہے ”وَمَا يَا لِفْظٍ مِّنْ قَوْلٍ إِلَّا لِدِيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ“ الغرض ناجائز منافعہ خوری نہ ایک ایسی براہی ہے جسکی وجہ سے انسان سے

دوسری براہیاں اور دیگر جرائم خود بخوبی سرزد ہوتے ہیں اور اسکے برخلاف اگر آدمی جائز نفع حاصل کرے تو نہ صرف یہ کہ وہ بہت سی براہیوں سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق جمیلہ سے خود بخوبی متصف ہوتا چلا جاتا ہے مثلاً: یہ کہ حرص ایسی مذموم صفت ہے کہ جو انسان کی دین و دنیا کو بر باد کر دے جسکے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”حرص“ وہ چیز ہے جس نے پہلے قوموں کو تباہ کر دیا اسی حرص نے انے بخل کر دایا، اسی نے ان سے رشتہوں کو قطع کر دایا، اسی نے انکو فرق و فجور پر آمدہ کیا، اسی نے انے بے گناہوں کو قتل کر دایا (صحیح مسلم باب تحریم الظلم، ابو داؤد، حاکم، صحیح ابن حبان) الغرض حرص وہ مکروہ صفت جو تمام عیوب اور جرائم کی جڑ ہے جائز منافع خوری کی عادت ڈالنے پر انسان اس خبیث عادت سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان میں حلال و حرام ذرائع سے دولت جمع کرنے کی جو حرص ہے وہ اسکو اپنانے کے بعد کم ہوتی چلی جاتی ہیں بلکہ دوسروں کی ساتھ ہمدردی و نگمساری اونکے ساتھ عدل ایشارا اور حسن سلوک کے جذبات اسکے اندر موجزن ہونے لگتے ہیں اور اسکا قلب صبر و توکل وجود و سخا اور شکر و قناعت جیسی عمدہ اور محبوب خصائص سے آراستہ و پیوستہ ہو جاتا ہے۔

قرض کی جلد ادا میگی

حضرت زید بن شعہر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل مذہب ایہودی تھے اور لین دین کا کاروبار کرتے تھے۔ آنحضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا اور اس قرض کی ادا میگی کی ایک میعاد اور وقت مقرر کر دیا، ابھی وہ میعاد آنے بھی نہ پائی تھی اور اس مقررہ وقت کے آنے میں ابھی چند روز باقی تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کے تقاضے کے لئے آگئے اور اس تقاضے میں انہوں نے اتنا غیر مہذب رویہ اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر زور سے پکڑ کر گھسیٹا اور بہت برا بھلا کہتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ”عبد المطلب کے خاندان والو تم بہت ہی بنا دہندا ہو اور ہمیشہ یونہی حیلے بہانے کیا کرتے ہو“، زید کی گستاخی کو ذکر کر جلالی فاروقی جوش میں آگیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غیض و غضب سے اس کی طرف دیکھا اور کہا ”او شمن خدا! تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں گستاخی کرتا ہے“، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مسکرا دئے اور فرمایا کہ عمر تمہیں چاہئے تھا کہ تم اس کو یہ سمجھاتے کہ تقاضہ زمی کے ساتھ کرنا چاہئے اور مجھ سے تمہیں یہ کہنا چاہئے تھا کہ اس کا قرض ادا کر دیجئے۔ یہ فرمایا کہ آپ نے عمر کو ہی حکم دیا کہ جاؤ اس کا قرض ادا کر دو اور میں ۲۰ صاع کھجور اس کو اور زیادہ دے دو۔ (بیہقی، ابن حبان، طبرانی، ابو نعیم)

اس حدیث پاک سے جہاں ہم کو ایسے ہتھ آمیز سلوک اور غیض و غضب

کے موقع پر تخلی اور بردباری اختیار کرنے کا سبق ملتا ہے وہاں اس بات کا بھی درس ملتا ہے کہ قرض دار کے قرض کو جتنا جلد ہو سکے ادا کر دیا جائے، اس کی ادائیگی میں بے جاتا خیر نہ کی جائے حتیٰ کہ کوشش یہ کی جائے کہ جو وقت قرض کی ادائیگی کا مقرر ہے اس سے پہلے ادا کر دیا جائے ورنہ اس کو تقاضے کا پورا حق حاصل ہے کیونکہ اس کا مال ہے اور وہ اپنے مال کو جب چاہے طلب کر سکتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تقاضے سے منع نہیں فرمایا، حالانکہ ابھی میعاد ختم ہونے میں کچھ دن باقی تھے، ہاں البتہ تقاضہ کرنے کا سلیقہ سکھا دیا جائے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قرض کی جلد ادائیگی میں اخلاقی اور معاشرتی بہت سے فوائد مضر ہیں مثلاً ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپس کے درینہ تعلقات خراب نہیں ہوتے ورنہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ روز رو ز کی جھک جھک اور تقاضوں سے بچپن کی دوستیاں اور قربی رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرض کی جلد ادائیگی سے لوگوں کی نگاہوں میں اس کا اعتماد قائم ہوتا ہے اور خدا نخواستہ اگر کوئی وقت اس پر پڑے اور اس کو مزید قرض کی ضرورت پیش آئے تو سابقہ اس کی روشنی کے پیش نظر ہر شخص اس کی مدد کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ مشکل وقت اس پر آسانی سے گزر جاتا ہے، ادھروہ قرض کے بارے سبکدوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور قیامت کے دن حساب دکتاب میں اپنے لئے آسانی کر لیتا ہے۔

سود کی براہیاں

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آنحضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روئیہ صادقہ کاذکر ہے کہ جسمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سود خور کو دیکھا آپ فرماتے ہیں کہ ”میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اسکیں ایک آدمی پھر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی کنارہ پر پھر لئے کھڑا ہے جب پہلا آدمی تھک کر کنارہ کے اوپر آنا چاہتا ہے تو دوسرا آدمی اسے پھر مارتا ہے جس سے اسکا منہ کھل جاتا ہے اور وہ پھر لقمہ بکرا سکے پیٹ میں اتر جاتا ہے اور وہ شخص پھر کھا کر پھر اسکی خون کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے اسپر حضرت جبرایل نے فرمایا کہ جو شخص خون کی نہر میں بہتا ہوا دکھایا گیا ہے وہ سود خور ہے۔“ (صحیح بخاری کتاب الجنائز باب اولاد المنشر کین و کتابہ التعجیز باب تعبیر الرؤیا) اس حدیث پاک میں سود خور کی سزا یعنی خون کی نہر میں اس کو دکھا کر اسکی براہی کی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ لوگ اپنا خون پسینہ ایک کر کے روزی کماتے ہیں اور سود خور بغیر کسی محنت کے آسانی سے اسپر قبضہ کر لیتا ہے تو گویا وہ خون کے دریا میں بہتا ہے۔

اس سے بڑھ کر سود کی اور کیا خدا بی ہو گی کہ یہ انسان کو ایک طرف تو کاہل اور سست بنا دیتی ہے کہ وہ بغیر ہاتھ ہلانے لکھ پتی بنتا چلا جاتا ہے اور اسکی حرص و ہوس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ انسان جورات دن محنت کر کے چند پیسوں کی مزدوری حاصل کرتا ہے وہ اپنی اس کمائی کو سود میں دیکھ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر تعجب تو یہ ہے کہ سود لینے والے میں ایسی خود

غرضی، سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسکو اپنے اس غریب بھائی کی بے چارگی پر ترس تک نہیں آتا، ظاہر ہے کوئی شخص اگر قرض لیتا ہے تو وہ اپنی مجبوری اور غربت کی بنابر لیتا ہے اب اسکی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مزید رقم کا بارڈال دیا کس قدر خود غرضی اور مطلب پرستی ہے اگر مالدار لوگ ناداروں کیسا تھا ہمدردانہ رعایت یا منصفانہ تعاون کا طریقہ اپنانے کے بجائے خود غرضانہ طریقہ اپنا میں گے تو آپس میں محبت والفت پیدا ہونے کے بجائے نفرت و حقارت کی طبیع حائل ہوتی چلی جائیگی اور معاشرہ انس و داد کا گھوارہ بننے کے بجائے دشمنی و عداوت کی جہنم بن جائیگا۔

یہ وہ بلائے عظیم ہے جب تھوڑی تنخواہ پانے والے اور مزدوریاں کرنے والے پر مسلط ہوتی ہے تو انکی مختصری آمدنی کا اکثر حصہ اس سود میں نکل جاتا ہے اور آخر میں ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ وہ دو وقت کی روٹی بھی اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور پھر اس کا اثر انکی روحانی اور اخلاقی کردار پر اس طرح پڑتا ہے کہ وہ برائیوں اور جرم کی طرف مائل ہوتے چلتے جاتے ہیں اس کا اثر انکی اور انکی اولاد کی معیار زندگی اور معیار تعلیم پر بھی پڑتا ہے جو پست سے پست تر ہوتی چلی جاتی ہے، علاوہ ازیں جب مزدور اور محنت کش عوام دیکھتے ہیں کہ انکی محنت کے پھل کو سود خور لے اڑتے ہیں تو اپنے کام سے انکی دلچسپی ختم ہوتی چلی جاتی ہے جس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم معاشی اور اقتصادی بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے۔

اپنی مدد آپ کرنا

صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ الصدیقۃؓ سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو آپ نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہا کرتے تھے مثلاً کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے خود پونڈ لگا لیتے تھے، گھر میں خود جھاڑوںے لیتے تھے، دودھ دوہ لیتے تھے بازار سے سودا خود لے آتے تھے، جوتی ٹوٹ جاتی تو خود ہی گانٹھ لیتے تھے، ڈول میں ٹانکے لگا لیتے اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے ہی چارہ ڈال دیتے تھے، غلام کے ساتھ ملکر آٹا گوندھ لیتے تھے، (صحیح بخاری) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے والی اور دو جہاں کے بادشاہ تھے آپ کے یہاں خدام اور کام کرنے والوں کی کمی نہ تھی، آپ کے دربار میں ہزاروں جاں شار ہر آن آپ کی ایک ابرو کے اشارے پر اپنی جاں قربان کرنے کیلئے کھڑے رہتے تھے وہ آپ کے ہر حکم کی تقلیل کرنا اپنے لئے سرمایہ افتخار سمجھا کرتے تھے لیکن آنحضرت روچی فدا ہصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام دوسروں سے کرانے کے بجائے خود کر کے امت کو اپنی مدد آپ کے ایک زریں اصول سے آشنا کر دیا اور یہ سبق دے دیا کہ خواہ کوئی امیر ہو یا وزیر، بڑا ہو یا چھوٹا ہر ایک کو اپنا کام خود کرنا چاہئے، اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ بڑا پیارا اصول ہے کیونکہ انسان کو بہت سی مصیبتوں اور احتیاجوں سے بچا لیتا ہے۔

اسلئے کہ اگر انسان دوسروں پر سہارا کرنے لگے اور اپنا ہر کام دوسروں کی

مدد سے کرے تو وہ دوسروں کا محتاج بنکر رہ جاتا ہے جس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ
 ہوتا ہے کہ وہ انہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے خواہ وہ اسکا کام بنادیں یا بگاڑ دیں،
 اچھا کریں یا برا کریں وہ مجبور ہوتا ہے اپنی مرضی کے مطابق تسلی بخش کام حاصل
 نہیں کر سکتا اسکے علاوہ دوسروں سے کام لینے کیلئے ان سے روز رو ز کے تقاضوں
 اور دن رات کی جود ردر سری ہوتی ہے وہ علیحدہ آفت ہے کام اتنا مشکل نہیں
 ہوتا جتنا اس کام کو کرانے کیلئے دوسروں کے پیچھے دن رات بھاگ دوڑ کرنا مشکل
 ہوتا ہے، اسکے علاوہ پیسوں کا ضیاع ایک اور دردناک پہلو ہے اس مہنگائی کے دور
 میں چھوٹے سے کام کا اتنا عظیم معاوضہ طلب کیا جاتا ہے اور اسکی اتنی کثیر اجرت
 طلب کی جاتی ہے کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور انسان کی جمع شدہ پونجی
 چند گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہوا ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ اسوہ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر ”اپنی مدد آپ“ کے زریں اصول پر عمل کیا جائے تاکہ
 معاشی، معاشرتی اور اقتصادی خوشحالی کیسا تھا ساتھ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بدولت روحانی و جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں اور خدا اور اسکے حبیب کی رضاو
 خوشنودی بھی حاصل ہو۔

ہر ایک کیلئے سہولت اور آسانی پیدا کرنا

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ امامت کے فرائض انعام دیتے تھے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ نماز فجر میں کیف و سرور حاصل کرنیکی خاطر لمبی لمبی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر انکی شکایت کی کہ وہ اسقدر لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ ہمارے لئے کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود الانصاری کا بیان ہے کہ یہ سنکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسقدر غضبناک ہوئے کہ میں نے اس سے بیشتر آپ کو آج تک اتنا غصہ میں کبھی نہیں دیکھا پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو متفکر کر دیتے ہیں جو شخص تم میں سے نماز پڑھائے اسے چاہئے کہ مختصر نماز پڑھائے کیونکہ نماز میں کمزور اور بوڑھے اور کام والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لہذا ہر ایک کا خیال رکھا جائے (صحیح بخاری کتاب الصلوۃ و باب حل یقضی الحکم و هو غضبان)۔

اس حدیث پر غور کرنے سے پہلے چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کیلئے ہر چیز میں آسانی اور سہولت فراہم کرنے کے کس قدر آرزومندو رخواہاں رہتے تھے حتیٰ کہ نماز جیسی عبادت اور وہ بھی قرآن کی طویل قرأت جیسے عظیم اجر و ثواب والے کام کو بھی لوگوں کی سہولت اور آسانی کی خاطر ختم کرنے کا حکم دے دیا اسی طرح مساوک کرنا آپ کو بڑا محبوب تھا اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ ہر نماز سے قبل مساوک کر کے اپنے منہ کو پاک و صاف

رکھیں اور ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ لیکن یہاں بھی امت کی مشقت اور تکلیف آپ کے سامنے آگئی کہ کہیں ایمانہ ہو کہ انکو حکم دیکر واجب کر دوں اور یہ اپر عمل نہ کر کے عذاب میں بتلاء ہو جائیں لہذا انکی آسانی کی خاطر آپ نے اپنے اس فرمان اور اپنے اس حکم کو جاری کرنے سے گریز فرمایا، الغرض حضور کی ہمه وقت یہی خواہش رہتی تھی کہ لوگوں کیلئے زیادہ سے زیادہ سہولت اور آسانی پیدا کریں اور راپرسب سے اہم واقعہ معراج شاہد ہے کہ حضور نے بار بار بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر امت کی آسانی کیلئے پچاس نمازوں کو معاف کروا کے صرف پانچ نمازیں اللہ کے دربار سے فرض کردا ہیں۔

تو پھر خالق کون و مکان نے بھی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور آرزو کا احترام کرتے ہوئے شریعت کے تمام وہ احکام نازل فرمائے جس میں امت مسلمہ کیلئے آسانی ہی آسانی ہے پچھلی امتوں کے شرعی احکامات سے اگر انکا موازنہ کیا جائے تو اس نعمت کا پتہ چلتا ہے مثال کے طور پر ”جائے عبادت“، ہی کوئے لیجئے کہ پچھلی امتوں کی عبادت انکی مخصوص عبادت گاہوں کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمیں کو امت مسلمہ کیلئے مسجد بنادیا ہے۔ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں ایسی ہی بے شمار مثالیں شریعت محمدی میں ہمیں جا بجا نظر آئیں گی۔ بہر حال ان تمام امور سے لوگوں کو یہ ذہن نشیں کرنا مقصود ہے کہ تم بھی لوگوں کیلئے جہاں تک ممکن ہو سکے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہا کرو اگر کوئی مبلغ ہے تو اس کو چاہئے کہ نزم اور سہل احکامات بیان کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرے اگر کوئی واعظ ہے تو اسے چاہئے کہ

وہ شریعت کے ادماں اور نواحی کو اُنے سہل انداز میں بیان کرے کہ بجائے نفرت کے اسکی طرف رغبت پیدا ہو اگر کوئی حاکم یا افسر ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے ماتحت ملازم میں اور رعایا کو زیادہ سے زیادہ ہر قسم کی سہولتیں بھم پہنچائے۔ اگر کوئی مل مالک یا زمیندار ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے مزدوروں، ہاریوں اور کسانوں کو اُنکے حقوق دینے میں تساہل یا سختی نہ کرے اگر کوئی کسی مصیبت سے دوچار ہے اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی کسی ابتلاء آزمائش اور آفت میں پھنسا ہوا ہو تو اسکی مدد کیلئے فوراً کوڈ پڑنا چاہئے۔

معمر لوگوں کی خدمت کرنا

ترمذی نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ کوئی جوان اگر کسی بوڑھے آدمی کی تعظیم اسکی عمر کی وجہ سے کریگا تو جب وہ اس عمر کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقرر کر دیگا جو اسکی تعظیم و تکریم کریں گے (جامع الترمذی ابواب البر والصلة باب ما جاء في إجلال الكبير) یوں تو ہر اپنے سے بڑے شخص کا احترام کرنا اور اسکی خدمت کرنا ضروری ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آنحضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بڑے کی توقیر نہ کی وہ ہم میں سے نہیں (جامع الترمذی باب ما جاء في رحمة الصبيان) لیکن مذکورہ بالاحدیث میں معمر اور بوڑھے شخص کی تعظیم اور خدمت کی تخصیص اسلئے کی گئی ہے کہ یہ دورانی زندگی کا وہ دور ہوتا ہے جسمیں اپنے بڑھاپے اور ضعف و ناتوانی کے باعث لوگوں کی طرف اسکی احتیاج بڑھ جاتی ہے وہ زندگی کے مشکل ترین مسائل کو اکیلے اور تنہا اپنے نازک اور ناتوان کندھوں پر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، وہ جوانوں اور طاقت ور لوگوں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کوئی اسکی دشمنگیری کر دے اور اسکے کام میں اسکو سہارا دے دے، ایسے مشکل وقت میں ایسے لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کو سہارا دینا چونکہ زیادہ ضروری اور انسانی فرض تھا، اسلئے اس حدیث میں خصوصیت کیا تھا معمرا حضرات کا ذکر فرمادیا گیا۔

او دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایسی عمر والوں کی طرف جوان لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں اور ان کے مسائل کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں آجکل یورپ

کامعاشرہ اور ہمارے یہاں مغرب زدہ طبقہ اپر شاہد ہے کہ اگر گھر میں کوئی بوڑھا
 ہو جائے تو اس سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے اسکو ایک کونے گوشے میں
 ڈال دیا جاتا ہے اسکے پاس بیٹھنا تو درکنار اپنے مشاغل سے چند لمحے نکال کر کھڑے
 کھڑے انکی دوبار تین بھی سننا دو بھر ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو سمجھانے کیلئے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بالا میں یہ بلیغانہ طرز اختیار فرمایا کہ
 جوانوں کو انکے آنے والے بڑھاپے کی یاد دلائی کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ ان پر بھی یہ
 وقت آرہا ہے اگر آج ایسے وقت میں وہ معمر لوگوں کا احترام کریں گے انکی خدمت
 کریں گے تو کل جب ان پر یہ وقت آیا گا تو اللہ تعالیٰ انکی بھی تعظیم و تکریم کرو ایسا گا
 انکو جب خدمت کی ضرورت محسوس ہوگی جب کسی سہارے کی احتیاج ہوگی جو کہ
 بڑھاپے میں لازمی ہوتی ہے تو اسوقت اللہ تعالیٰ دوسروں سے انکا ادب کرو ایسا گا
 اور انکے کام بنو ایسا گا۔

مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا

بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آنحضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ اپر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی سلامتی اور عافیت کو ختم کرتا ہے اور اگر اس بھائی کی کوئی حاجت ہو اور وہ اسکی حاجت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کے کسی غم اور پریشانی کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں اور مصیبتوں کو اس سے دور فرمادے گا اور جو اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پرده پوشی کرے اس کے عیوب اور نقص کو طشت از بام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیوب اور گناہوں سے پرده پوشی فرماتا ہے۔ (مختکلة بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم ص ۳۲۲) اس حدیث میں مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی مصیبت میں کام آنے اور مشکل کے وقت ان کی مدد کرنے اور ان سے تعاون کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ معاشرہ کی فلاج و بہود کے لئے اسلام کا یہ زریں اصول ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو رقبتیں ختم ہو جائیں اور دشمنیاں مٹتی چلی جائیں اور دلوں کی دنیا محبت و اخوت کا مہکتا ہوا گلستان بن جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس کس کی نظر میں نہیں وہ زمانہ جب تمام صحابہ یکجاں شیر و شکر تھے اور انکی آپس میں کوئی رنج اور رقبت نہیں تھی اس کی وجہ وہی تعلیمات مصطفویہ تھیں جنہوں نے صحابہ کو انسانیت کا ایسا ہمدرد و نعمگار بنادیا تھا کہ دنیا کے کسی گوشہ میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے اور اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔

”مواخاة“ کا واقعہ اس پر شاہد ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ بے

سر و سامانی کے عالم میں مدینہ پہنچتے ہیں تو اہل شہر نے ان مصیبت زدؤں کا ان کی مشکل کے وقت میں ایسا ساتھ دیا ہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے، ان صحابہ نے اپنی جائیدادوں میں سے آدھا حصہ خود رکھا اور آدھا اپنے بھائیوں کو دے دیا، مال میں سے آدھا حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لئے رکھا اور آدھا حصہ زخم رسیدہ مہمانوں کو دے دیا، گھر کے سامان میں سے آدھا خود رکھا اور آدھا اپنے ستم زدہ بھائیوں کو دے دیا حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی خود رکھی اور دوسری بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔

اسی طرح خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ہمدردی اور غمگساری بارگاہ نبوت میں کیسی مقبول ہوئی جوانہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کے ساتھ اس کے مشکل وقت میں کی تھی یعنی حضرت بلاں پر جب انکے کافر اور جابر آقا کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ نبی آخر الزماں کا کیوں نام لیوا ہے ان کو کیوں مانتا ہے اور اس مشکل وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکی اس طرح مدد فرمائی کہ ان کو بڑے مہنگے اور ارزائی داموں میں خرید کر راہ خدا میں آزاد کر دیا اور اپنے اس عمل سے خدا اور حبیب خدا کی خوشنوبی اور رضا حاصل کی کہ پھر قرآن میں خود خدا نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی کہ "وَمَا لَهُ حِدْنٌ عِنْهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَجْزِي
الا ابْتِغَاءُ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلِسُوفَ يَرْضِي" اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں تھا کہ اس کا کوئی بدلہ دیا جائے بلکہ اس (یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے تو صرف یہ کام اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا ہے وہ رب جو سب سے بلند ہے اور بے شک عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔

رشوت ستانی

رشوت کالینا اور دینا ہمارے دین مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قانونی شرعی اور اخلاقی جرم ہے آنحضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے: (جمع للہبیشی ^{للمذہبی} ۱۹۹، ۲، ۱۹۹)۔ الترغیب والترہیب للمنذری ۱۳۰، ۳) ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ ان دونوں پر لعنت ہو (سنن ابو داؤد کتاب الاقضیہ) لینے والے تو واضح طور پر مجرم ہیں لیکن دینے والے پر اسلئے لعنت بھی گئی کہ وہ اس جرم کو بڑھانے میں اسکے مددگار اور معین بنے ہیں اگر دینے والے نہ دیتے اسکو یہ عادت نہ پڑتی اور وہ اس گھناؤ نے جرم کا ارتکاب نہ کرتا اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایماندار لوگ عہدوں پر ہوتے ہیں لیکن دینے والوں کی روشن سے مجبور ہو کر ایک دن اسی سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لہذا اگر ہر شخص یہ عہد کر لے کہ وہ کبھی رشوت دیکر کام نہیں کروایے تو یہ برائی معاشرہ سے بہت جلد ختم ہو جائے اور جب برائی ختم ہو جائیگی تو معاشرہ بہت سی برائیوں اور پریشانیوں سے اور دکھوں سے خود بخود پاک ہوتا چلا جائیگا مثلاً، ظلم و تعدی جو معاشرہ کا سب سے اہم اور درد ناک پہلو ہے اس سے ہر شخص کو نجات مل جائیگی پھر کوئی شخص پیسہ دیکر نا حق فیصلے نہیں کرو اسکے گا کوئی شخص چند لئے دیکر غنڈہ گردی اور لا قانونیت نہیں پھیلاتا پھر یگا، پھر قانون کی بالادستی قائم ہو جائیگی، قانون کی گرفت سے لوگ ڈریں گے، چوری، ڈیکیتی، زنا، فحاشی، عریانی، انغواء الغرض اس جیسے بہت سے ہیبت ناک جرائم

کا ارتکاب پھر سر عام نہ ہو گا بلکہ جرائم آہستہ آہستہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے چونکہ رشوت ستانی کا خاتمه تمام اچھائیوں کی بنیاد اور راسکاو جود تمام برائیوں کی جڑ ہے اسکی لئے آنحضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر اسکی شدت سے تاکید فرمائی اور صحابہ کرام کوختی کیسا تھا اس کے لینے سے منع فرمایا خواہ وہ تحفہ ہو یا ہدیہ یہ کسی کام سے بھی دئے جائیں چنانچہ عمال کو آپ نے رعایا سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے کی بھی ممانعت فرمادی تھی (سنن ابو داؤد کتاب الاقضیہ و کتاب المجهاد)۔

حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک عامل نے آکر آپ کے سامنے مال رکھا اور عرض کیا کہ حضور یہ مال صدقۃ کا ہے اور یہ تھوڑا سا مال وہ ہدیہ اور تحفے ہیں جو وہاں کے لوگوں نے مجھے دئے ہیں یہ سنکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے عامل کا کیا حال ہے کہ جسکو ہم سمجھتے ہیں تو وہ آکر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر دیکھے کہ اسکو تحفے ملتے ہیں یا نہیں ملتے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ اس مال میں سے جو کچھ بھی لیا گا خواہ وہ اونٹ ہوں یا گائے ہوں یا بکریاں وہ سب قیامت کے دن اسکی گردن پر لا دیا جائیگا۔ (صحیح بخاری، باب حدایا عمال)

غضہ کرنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غصہ آدمی کو ایسا کر دیتا ہے جیسے ایلو اشہد کو (مشکوٰۃ باب الغضب والکبر) ایلو اور شہد کی تمثیل لاءِ آنحضرت کو بتانا یہ مقصود تھا کہ آدمی کتنے ہی شیریں اخلاق، اور عادات کا مالک کیوں نہ ہوا گروہ غصیل ہے تو اس سے ہر شخص نفرت کریگا اور اس سے دور بھاگے گا گویا کہ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جسکی وجہ سے اسکا تمام حسن ماند پڑ جائیگا اسکی دیگر اخلاق کی شیرینی تلخی میں تبدیل ہو جائیگی یہی وجہ ہے کہ با کمال شخصیتوں نے اپنے کمالات میں نکھار لانے کیلئے اور عدمہ خصال کی مشاہس کو باقی رکھنے کی غرض سے غصہ کو ضبط کرنے کی مشق اور اسکے برداشت کی عادت ڈالنے کیلئے بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کئے۔

چنانچہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی کو گالی دی اپر برہم یا غصہ ہونے کے بجائے آپ نے اسکو ضبط کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میری نیکیاں تیری گالی سے زیادہ ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں اور اگر تیرا کہنا میرے گناہوں سے زیادہ وزنی ہے تو واقعی جوتونے کہا میں اس سے بھی برا ہوں۔

اس ہی طرح مالک بن دینار کو ایک شخص نے کہا کہ تو ریا کا رہے آپ نے بکمال ضبط کا مظاہرہ فرمایا کہ تو نے خوب پہچانا یہ ان اولیائے کرام نے یہ غصہ کو ضبط کرنے کا طریقہ اپنے آقا و مولا اور کائنات کے تاجدار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جس کے حلم کی مثال تاریخ عالم کے اور اراق میں ملنی مشکل ہے

غور کیجئے کہ وہ کون سی تکلیف اور ایذا تھی جو دشمنانِ اسلام نے آپ کو نہ دی تھی لیکن جب انتقام لینے کا وقت آیا اور وہی تمام کفار قیدی بن کر فتح کہ کے دن حضور کے سامنے لائے گئے تو آپ نے "لاتشریب علیکم الیوم" فرمایا کہ سب کو معاف کر دیا اس سے بھی زیادہ غصہ کا وہ وقت تھا جب منافقوں نے آپ کی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ تھمت لگا کر پورے شہر میں بدنامی پھیلادی تھی لیکن اسوقت بھی اس حلم کے پیکرنے کسی سے کوئی تعریض نہ کیا اور اس وقت غصہ کو پی کر حلم کی ایک مثال قائم کر دی۔

ہم غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہئے کہ اپنے آقا مولیٰ کی سیرت مقدسہ کا اتباع کرتے ہوئے ایسے غصہ کے موقع پر غصہ کو ضبط کرنے کی کوشش کریں اور اس کا عملی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو پانی پی لو کہ پانی آتش غصب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ غصہ کے وقت فوراً سجدہ میں گر کر اپنے سر کو خاک پر رکھ دے تو غصہ فوراً ختم ہو جائیگا دراصل اس فعل کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کے حضور اپنی بے مائیگی اور کمتری کا احساس اگر اجاگر کرے گا تو غصہ خود بخود ختم ہو جائیگا اسی امر کی طرف یہ واقعہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ایک روز حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ میں کسی کو لوٹھی کا بچہ کہہ دیا اسپر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر تو اسوقت تک کسی سے بہتر نہیں جب تک کہ تو تقویٰ اور پرہیز گاری سے کام نہ لے (صحیح بخاری باب العاصی من امر الجاہلیة) تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم اور آپس میں مساوات کے تصور کو قائم فرمایا کہ غصہ کو فرو کر دیا۔

کسی پر لعنت بھیجننا

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "لعنة المومون کقتله" کسی پر لعنت بھیجننا اس کے قتل کے برابر ہے (صحیح بخاری، کتاب الاداب باب ما نہی عن اسناد اللعن) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر لعنت بھیجننا سخت ترین گناہ ہے اور کیوں نہ ہوا س لئے کہ لعنت کے لغوی معنی دور کر دینے اور ہٹا دینے کے ہیں تو جب انسان کسی مسلمان پر لعنت بھیجتا ہے تو گویا بالفاظ دیگر یا تو وہ اسکو بد دعا دیتا ہے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتو یہ بھی درست نہیں اس لئے کہ خدا کی رحمت اپنے ہر مطیع اور فرمانبردار بندہ کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اسکو خدا کی وسیع رحمت سے دور ہونے کی بد دعا دیں، یا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو گیا ہے اور یہ بھی درست نہیں اسلئے کہ غیب کا علم تو صرف خدا کو ہے۔

اگرچہ بظاہروہ کتنا فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو لیکن کیا معلوم اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہو کہ وہ خدا کا محبوب بن گیا ہوا اور اس ایک عمل خیر کی وجہ سے اللہ نے اسکے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسکو اپنا مقرب بنالیا ہو لہذا ہم اس مقرب کیلئے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی رحمت دور ہو گیا لہذا شریعت مطہرہ نے کسی خاص معین شخص پر لعنت بھیجنے کی سخت ممانعت فرمائی اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر لعنت بھیجے گا تو حدیث کی رو سے وہ لعنت اسی پر لوٹے گی جیسا کہ ابو داؤد کی ایک روایت

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے لیکن آسمان کے دروازے بھی اس کے لئے بند کر دئے جاتے ہیں پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے لیکن اسکے دروازے بھی اس کے لئے بند کر دئے جاتے ہیں پھر وہ اسکی طرف جاتی ہے جس کو لعنت کی گئی تھی اگر وہ اسکا اہل ہے یعنی کافر تھا یا فاسق فا جر تھا تب تو ٹھیک ہے ورنہ اس لعنت کا وباں اور اسکا سخت گناہ دینے والے کو پڑتا ہے (سنن ابو داؤد کتاب الادب، باب فی اللعن) اس مقام پر اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جب معین اشخاص پر لعنت بھیجنے منع ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معین کفار کو کیوں لعنت بھیجی تو اسکا جواب بھی ضمناً ما قبل آگیا ہے کہ لعنت بھیجننا ہمیں اس لئے منع ہے کہ ہمیں اس شخص کے انجام کی خبر نہیں کہ آیا یہ شخص کافر تھا یا مومن، فاسق تھا را ہے یا متقی، جہنمی ہے یا جنتی، لیکن یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں اسلئے کہ آپکی نگاہوں سے کائناتِ ارضی و سماءی کی کوئی شئی پوشیدہ نہیں "ماکان و مایکون" کا تمام علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ فلاں شخص جنتی ہے فلاں شخص جہنمی ہے چنانچہ عشرہ مشہور ہیں جن کے جنتی ہونے کی سرکار نے بشارت دے دی ہے۔

اس ہی طرح کفار میں سے بعض لوگوں کے جہنمی ہونے کی خبر آپ نے ہم کو بھی دے دی تو چونکہ ہر شخص کے متومن یا کافر ہونے مقرب خدا یا مردود بارگاہ ہونے کی خبر اللہ نے آپکو دے دی اسلئے آپ کا انکے انجام کو دیکھتے ہوئے فرمانا کہ اس پر لعنت ہو اور یہ خدا کی رحمت سے دور ہو بالکل درست اور بجا ہو اور واقعہ کے

عین مطابق ہوا، بعض علماء نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ”اللهم انما اننا بشر فای المسلمين لعنتہ او سببته فاجعلها لہ ذکاۃ واجرا“ (صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب من لعنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم) کہ اے اللہ میں بشر ہوں اگر میں نے بتقاضاۓ بشریت کسی مسلمان کو لعنت یا گالی دے دی ہو تو تو اس لعنت اور گالی کو اس مسلمان کی پاکی اور اجر کا باعث بنادیجو، لہذا اگر وہ شخص کافر ہو جسکو آنحضرت نے لعنت کی ہے تب تو وہ لعنت اپنے اپنے محل پر ہوگی ورنہ اگر وہ مسلمان ہو تو اسکے گناہوں سے معافی اور اسکے مزید اجر و ثواب کا باعث بن جائیگی اسلئے کہ یہ رحمۃ للعالمین کی لعنت ہے وہ خود بھی رحمۃ للعالمین ان کی ہر رداء انکا ہر فعل رحمت ہے مسلمانوں کیلئے۔

بدکلامی

ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز جزا پر یقین رکھتا ہے اسکو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے (صحیح مسلم کتاب الایمان) اس حدیث مبارک میں بدکلامی سے احتراز کرنے اور خوش کلامی کی ترغیب ایسے شخص کو دی گئی ہے جو اللہ اور روز جزا پر یقین رکھتا ہے گویا یہ فرمائے اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ بدکلامی سے وہ ہی شخص اجتناب کریگا جس کا قیامت پر اور روز جزا و سراء کے دن پر کامل ایمان ہوگا کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہو گا کہ اگر آج اس دنیا میں کسی کے ساتھ برائی کی تو کل اسکا بدلہ اسکو ضرور ملیں گا لہذا کسی کے ساتھ بدکلامی سے پیش نہیں آیا گا بلکہ کسی نے اسکے ساتھ بدکلامی کر لی تو وہ قرآن کے اس لعہ شاد کے مطابق کہ "وَاذَا خاطبُهُمْ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا إِسْلَامًا" وہ خاموشی کے ساتھ ایسے جاہلوں کے پاس سے گزر جائیگا۔ اور اسکے جواب میں بدکلامی کر کے اپنی زبان اور اپنے دل کو گندگی سے آسودہ نہیں کریگا۔

کیونکہ اسے یقین ہو گا کہ اسکی اس تبلیغ کلامی کا کل قیامت کے دن اسکو ضرور بدلہ ملیں گا۔ قیامت کے دن تو بہر حال بدکلامی کا بدلہ ضرور ملیں گا مگر اس دنیا میں بھی بدکلامی کا ثمرہ ظاہر ہو جاتا ہے یعنی بذبانی کرنے والے کو ہر شخص نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو اسکے باعث جھگڑے اسقدر بڑھ جاتے ہیں کہ قتل و غارتگری تک نوبت پہنچ جاتی ہے بعض دفعہ وہ اپنے بنے بنائے

کام اس کی وجہ سے خراب کر بیٹھتا ہے اور مالی، جسمانی روحانی اور اقتصادی نقصانات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس ہی لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ”من صمدت نجا“ (مشکوٰۃ بحوالہ مسند احمد، ترمذی، دارمی، بیہقی ص ۲۱۳) کہ جس شخص نے خاموشی کو اپنا شعار بنایا وہ نجات پا گیا یعنی آخرت کے عذاب سے بھی بچ گیا اور راس دنیا میں ہر قسم کی پریشانی، تکالیف اور نقصانات سے بھی محفوظ ہو گیا۔

یار کھئے کہ تینی اور کڑواہٹ سے انسان دور بھاگتا ہے جبکہ شیرینی اور مٹھاں کی طرف وہ راغب ہوتا ہے لہذا جب انسان تینی کلامی کرتا رہتا ہے تو اسکے دوست احباب رشتہ دار اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس بھری دنیا میں تنہارہ جاتا ہے۔ کبھی اسکو کوئی مشکل پیش آجائے تو اسکا کوئی ساتھ دینے والا اسکے ساتھ ہمدردی کے دو بول بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے جبکہ خوش اخلاق اور خوش مزاج شخص کے ساتھ لوگ اسکے کلام کی شیرینی اور گفتگو کی مٹھاں کے باعث چکپے رہتے ہیں اسکے حلقة احباب میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص اس پر اپنی جان سے نثار ہو جاتا ہے۔

حلہم اور بردباری

”حلہم“ کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی اشتعال انگیز اور ناروا بات کو برداشت کر لیا جائے اور قدرت و طاقت ہونے کے باوجود اس سے کوئی انتقام یا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ قصور دار کو اس کا قصور معاف کر دیا جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے اور غصے کی حالت میں دشمن سے در گزر کر دینا اور اس سے انتقام نہ لینا حقیقت یہ ہے کہ بڑی مرد اگلی اور اولوالعزمی کا کام ہے اسی لئے آنحضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ اور غصب میں اپنے سرکش نفس کو پچھاڑ دے اور اس کو شکست دیکر انتقام لینے سے باز رکھے (جامع الترمذی ابواب البر والصلة باب ما جاء في كثرة الغصب)۔

حقیقت یہ ہے کہ اسکا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرے یا کوئی ناروا سلوک کرے یا اس کی توہین کرے یا بھری محفل میں اس کو گالی وغیرہ دیکر اسکی تذلیل کرے ایسے وقت میں انسان کا خون کھول اٹھتا ہے اور ایسی صورت میں وہ اپنے خریف سے انتقام نہ لینے کو اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے اسکی ہلاکت کے درپے ہو جاتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس وقت خالق دو جہاں اور اس کے محبوب کی نگاہ میں انتقام لینا بہادری نہیں بلکہ اپنے دشمن کو معاف کر کے اس سے انتقام نہ لینا، یہ بہادری اور جوان مردی ہے لوگ پہلوانی سمجھتے ہیں اکھاڑے میں اتر کر اپنے خریف پر بڑے بڑے داؤ آزماتے ہیں اور اس کو شکست

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زیر کی نشری تقاریر

دیکر مخلوق سے داد و تحسین وصول کرتے ہیں لیکن ہائے افسوس ”غصہ اور غصب کے اکھاڑے“، میں نفس کو شکست دیکر اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے اور خالق کائنات سے داد و صول کرنے کا انہیں کبھی خیال تک نہیں آیا۔

صفت حلم کی فضیلت اور اہمیت کے لئے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے اس صفت حسنہ سے خود اپنے آپ کو متصف فرمایا اور تمام انبیاء و اولیاء غرض اپنے تمام محبوبوں کو اس صفت سے حصہ وا فرنصیب فرمایا اور اپنے حبیب دو جہاں کے والی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ”حلم“، عطا فرمایا کہ اپنا مظہر اتم بنادیا اسلئے کہ اسکے حلم کی شان یہ ہے کہ اسکی مخلوق جوزندگی کے ایک ایک سانس میں اسکی منت کش احسان ہے وہ ہر وقت اسکی نافرمانی کر کے اس کے غصب کو دعوت دیتی ہے لیکن اس کے باوجود اس خالق و مالک کی طرف سے کبھی انس نے انتقام نہیں لیا جاتا اور جس طرح اسکے دوستوں کیلئے رزق بھیجتا ہے اسی طرح اسکے دشمنوں کے لئے بھی رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں دنیا کی ہر آسائش ان کو مہیا ہوتی ہے اور قدرت کے باوجود ان سے کبھی انتقام نہیں لیا جاتا خدا کی اس صفت حلم کا عظیم جلوہ اسکے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں اسی طرح جگمگا تا ہوا نظر آتا ہے۔

طاائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بر سائے گئے، طعن و شفع کے تیر پھینکے گئے کفار مکہ نے آپ کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائیں، کبھی گالیاں دیں، تو کبھی جسم پر نجاستیں ڈالیں، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، تو کبھی گلے میں پھنڈاڑا لالا، کبھی جادو گر کہا، تو کبھی پاگل بتایا، حتیٰ کہ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت

عاشرہ صدیقه رضی اللہ عنہا پر ہمیں لگائی گئیں، یہ ایک ایسا وقت تھا کہ بڑے سے بڑا
 حلم انسان بھی اس وقت غصہ سے بے قابو ہو جاتا تھا لیکن اس پیکرِ حلم و برداری نے
 خون کا گھونٹ پی کر ان کے لئے دعائیں کیں اور قدرت کے باوجود کبھی کسی سے
 انتقام نہ لیا حالانکہ طاقت و قدرت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کی زبان سے صرف دو
 لفظ بھی ان دشمنوں کی بد دعا کے لئے نکل جاتے تو انکی بستیوں کی بستیاں تباہ
 ہو جاتیں، اور ان کے نام و نشان تک مت جاتے تھے لیکن آپ نے حلم کا مظاہرہ فرمایا
 امت مسلمہ کو یہ سبق دے دیا کہ خدا کے یہاں محبوب بننے کا راستہ یہی ہے کہ انسان
 اپنے جانی دشمنوں سے درگزر کر جائے اور قدرت و طاقت کے باوجود انتقام نہ
 لے "حلم" کے بارے میں پرانے دانشوروں نے بھی بڑی پیاری باتیں کہی ہیں
 چنانچہ لکھا ہے کہ ایک روز نو شیروال نے ابوذر جہر سے پوچھا کہ حلم کیا ہے؟ اس
 نے کہا کہ انسان کے جتنے اچھے اور عمدہ خصائص ہیں حلم ان کی جان اور ان کا ملح یعنی
 نمک ہے اور دلیل یہ دی کہ اگر حلم کو والٹا کر کے پڑھا جائے تو ملح بن جاتا ہے جس
 کے معنی نمک کے ہیں لہذا جس طرح بغیر نمک کے کی کھانے میں مزہ نہیں اسی طرح
 بغیر حلم کے کسی خلق میں جمال نہیں۔

خوش خلقی

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دین کی کیا تعریف ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ”خوش خلقی اور اچھی عادت“ اس نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یہی جواب عطا فرمایا اس طرح کئی بار حضور کے دامیں باعیں آکر پھر وہ یہی سوال دہرا تارہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی جواب عنایت فرماتے رہے (مکافحة القلوب للام غزالی ص ۷۱) اس حدیث سے خوش خلقی اور اچھی عادت کی اسلام میں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعریف میں صرف اور صرف خوش خلقی کا ذکر فرمائی اشارہ کر دیا کہ ہمارے مذہب کی جان اور ہمارے دین و ملت کی روح یہی خوش خلقی ہے، اگر کوئی شخص اپنے ہم نشین کیسا تھوڑا چھٹے بر تاؤ اور عمدہ اخلاق کیسا تھوڑا پیش آئے تو اسکی تمام عبادات اور دوسری نیکیاں بھی مقبول ہیں ورنہ انکی حیثیت ایک بے روح جسم اور ایک بے جاں قابل کی سی ہے جسکی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب سرکار رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو بڑی متقدی، پرہیز گار اور شب زندہ دار تھی لیکن اپنی بد اخلاقی اور ترش روئی کے باعث اپنے ہمسایوں کو بہت ناخوش رکھتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسکی تمام عبادات میں رائیگاں گئیں اسکی بد خلقی اسکے اچھے اعمال کو اس طرح خراب

کر رہی ہے جس طرح سر کہ شہد کو خراب کر دیتا ہے پھر فرمایا کہ وہ جنت کی بہاروں سے لطف اندو زندہ ہو سکے گی۔ (ادب المفرد بخاری باب من لا یو ذی جارہ)۔

بہر حال خوش خلقی اور خنده جینی کی عادت انسان کے اعمال اور عبادات کو جہاں بارگاہ الہی میں مقبول بنادیتی ہے وہاں خود انسان کو یہی خدا اور اسکے بندوں کی نگاہ میں معزز، مکرم اور مقبول و منظور بنادیتی ہے بلکہ یوں کہیے کہ اسکی بدولت انسان مخلوق خدا کو اپنا گردیدہ کر لیتا ہے اور پھر وہ ایک ایسا عظیم حکمران اور فرمائزہ ہو جاتا ہے، کہ جسکی حکومت انسانوں کی گردنوں پر نہیں بلکہ دلوں پر ہوتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب اس صاحب خلق عظیم اعلیٰ مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائے توحید بلند کی تو ہر طرف سے دشمنی وعداوت اور نفرت و حقارت کے شعلے بھڑک اٹھے لیکن اسوقت آپ کا یہی خلق عظیم تھا جس نے نفرت و حقارت کے دہکتے ہوئے انگاروں کو انس و محبت کے پھولوں میں بدل دیا اور وہ جہنم زار معاشرہ دیکھتے ہی دیکھتے چمن زار بن گیا اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ عرب کے بدؤوں اور وحشیوں نے اسہی خوش خلقی اور اخلاق حسنہ کا آپ سے درس لیکر اسکے ذریعہ دنیا کی بڑی بڑی اقوام کو اپنازیر نگیں کر لیا اور اسہی اخلاق حسنہ کی کرشمہ سازی تھی کہ اسلام کا ڈنکہ تمام عالم میں نجع گیا۔

لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تکواروں اور ہتھیار کے ذریعے پھیلا میں کہتا ہوں کہ ہاں ہتھیاروں کے ذریعے پھیلا لیکن وہ ہتھیار لو ہے یا پیتل کے نہیں تھے بلکہ وہ اخلاق حسنہ اور اعلیٰ کردار کے ہتھیار تھے، اور ہاں اخلاق جمیلہ کے ہتھیاروں میں خدا نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جب بھی یہ استعمال کئے جاتے ہیں دلوں کی دنیا بدل

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کی نشوی تقاریر صفحہ (80)

کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی فارسی شاعر نے خوب کہا۔

مہ - سے کہ ہ سپ مارمش کہ مل ہ د
ب مر ق وہ مدارا و اش ماخت ن
و آن سے ماخت کے مارے ہ نرمیں چند مان
کہ ہ نہ وان یہ تیغ وسیہ مان سے ماخت ن
یعنی اگر تمہیں کوئی مشکل سے مشکل مہم آپ پرے تو اس کو خوش خلقی اور رفق
و نرمی سے حل کیا تو وہ آسان ہو جائیگی کیونکہ نرمی اور خوش خلقی سے وہ وہ کام ہو جاتے
ہیں جو تیغ و سنال اور تیر و ششیر سے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اشاعت اسلام
کا مشکل ترین کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاقی مظاہرہ کے
باعث آسان ہوتا چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق کیا تھے اسکی
ایک جھلک ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول میں نظر آتی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی دل خنکنی نہیں فرمائی تھی حتیٰ کہ بعض احادیث سے
ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کی کوئی بات ناگوار گز ری
تو آپ نے اس سے اس ناگواری کا اظہار اس شخص کے سامنے نہیں فرمایا کہیں اسکا
دل نہ ٹوٹ جائے۔ (شماکل الترمذی بیان اخلاق)۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آ
پ کو قلوب کی رنجیدگی اور دلوں کی سُھیں کا کتنا خیال تھا آج اپنی بد اخلاقی کے باعث
دلوں کو ایذا دینا اور قلوب کو رنجیدہ کرنا ایک کھیل بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
ہمارا معاشرہ رو بزوں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اور خوش خلقی کیسا تھر ہے کی
 توفیق عطا فرمائے۔

صحبت بد سے اجتناب

آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب دین کے دو بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ان کی مثال دو ہاتھوں کی ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ آپ کے اس ارشاد پاک کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ صحیح معنی میں دوست وہی ہوتے ہیں جن کی معیت و صحبت میں انسان فاسد نظریات، برے عقائد و خیالات اور خراب سیرت و کردار سے پاک ہو جائے اور اچھے اخلاق و عادات اور عمدہ نظریات و اوصاف سے متصف ہوتا چلا جائے، اس کے رفیق اور دوستی کا وجود اور اس کی محبت و معیت اس کے لئے آب حیات ہو جو اس کے اوصاف رذیلہ کو دھو کر اوصاف حمیدہ سے اس کو آراستہ و پیراستہ کر دے، حقیقت میں ایسے ہی لوگ دوست کہلانے کے قابل بھی ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ یا وہ نام نہاد دوست جن کے پاس بیٹھ کر بجائے اچھی عادات حاصل ہونے کے رہی کہی اچھی خصلتیں اور عادتیں بھی ختم اور فنا ہو جائیں ان کو دوست کہنا بھی ”دوستی“ کے لفظ کی توہین ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوستوں کو دو ہاتھوں سے تشبیہ دے کر اس طرف اشارہ فرمادیا کہ دوست حقیقت میں وہ ہی ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر بری عادتیں دھل جائیں اور مٹ جائیں بالکل اسی طرح جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے میل اور گندگی کو دھو کر اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔

در اصل تعمیر کردار میں ”صحبت“ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، انسان

صحبت کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر اس کے اچھے ساتھی ہیں تو ان کے عمدہ خیالات اور عادات کا اس میں ضرور اثر آئے گا اور اگر خدا نخواستہ بروں کی صحبت میسر آگئی تو لا محالہ ان کے برے اثرات بھی اس پر ضرور اثر انداز ہونگے اگرچہ خواہ وہ کتنا ہی عقلمند، بزرگ و دانا ہو، پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ ہو اگر اس کو بری صحبتیں ملی ہوئی ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ سیدھے ہے راستے سے بھٹک کر گمراہیوں کے صحراء۔ بھٹک جائے گا اور اپنی زندگی کو بر باد کر بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر دور کے بڑے بڑے علماء، عقلاء اور مفکروں نے اپنے اپنے کلام میں بری صحبتیں سے اجتناب کرنے اور اچھی صحبتیں کو اختیار کرنے کی بڑی تاکیدیں کی ہیں۔

صحبت تو وہ چیز ہے کہ بے جان چیزیں بھی جس کے باعث متاثر ہو جاتی ہیں تو پھر انسان جو اشرف الخلوقات ہے وہ کیوں نہ "صحبت" کے اثرات سے متاثر ہو گا، شیخ سعدی نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی اور فرمایا کہ ایک روز میں نے ایک "مشی" کو دیکھا کہ اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، میں نے اس سے پوچھا کہ "مشی" مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ تو "مشی" ہے یا مشک و عنبر کی ڈلی ہے، اس نے کہا کہ میں تو وہ ہی مشی ہوں جس کو وگ اپنے پاؤں تلے روند دیتے ہیں، سعدی نے کہا کہ پھر تیرے اندر یہ مہک اور خوشبو کہاں سے آئی ہے، اس نے جواب دیا کہ یہ صدق ہے پھولوں کی معیت کا، کیونکہ پنڈ لمحے میں پھولوں کی معیت میں اور ان کے ساتھ، اس، اس صحبت کی وجہ سے برے اندر بھی خوشبو بس گئی اراب میں بھی پھولوں کی طرح مہک رہی ہوں۔

جمال ہم نشیں در من اثر کرد

و گرنہ من ہماں خاکم کہ هستم

بہر حال شیخ سعدی کا مقصد یہ ہے کہ وہ مٹی پھولوں کی چند لمحوں کی صحبت اختیار کرتی ہے تو اس کی خوبی سے متصف ہو کر مہکنے لگتی ہے اگر ہم خاک کے پتلے بھی اچھے اخلاق و عادات کے پھولوں سے مہکتے ہوئے راستوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہم بھی ان کے اخلاق سے متصف ہو کر مہکتے چلے جائیں گے اور یہ معاشرہ جو برے عادات اور اخلاق کی وجہ سے کرب اور بے چینی سے دوچار ہے اس کو طہانیت اور سکون حاصل ہو جائے گا اور انس و محبت کی ہواؤں سے ساری فضا پر بہار ہو جائے گی۔

مندرجہ بالا حدیث سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چل گیا وہ یہ کہ ہاتھ کا کام دھونے کا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کو ہاتھ سے تشبیہ دی ہے لہذا دوست کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی اور رفیق کے عیوب اور برائیوں پر نظر رکھے، اس کی غلطیوں اور برائیوں پر اس کو آگاہ کرتا رہے اور ادھر دوسرے دوست کو بھی یہ چاہئے کہ وہ اس غلطی کا اقرار کرے، اپنی انا یا بے عزتی کا مسئلہ بنایا کر خواہ مخواہ غضبناک نہ ہو اور نہ ہٹ دھرنی کا مظاہرہ کرے بلکہ شکریہ کے ساتھ اس کے شکوہ کو قبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اس عیوب کو اپنے اندر سے نکالنے میں مصروف ہو جائے۔

اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ہدایت کی بات بنا دی جائے یا اس کے کسی عیوب اور برائی سے اس کو روکا جائے تو اس قدر غصہ ہو جاتا ہے جیسے اس

کی ماں بہن کو کوئی گالی دے دی ہوتی کہ بعض تو آستینیں چڑھا کر مارنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں اس طرح معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کی اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص خود اپنے عیوب پر نظر رکھے، اپنی برائیوں اور کوتاہیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی اصلاح کرتا رہے ایسے میں اگر کوئی دوسرا اس کے کسی عیوب کی نشاندہی کر دے تو اس کا ممنون اور شکر گزار ہو کہ اس دوست نے مجھے ایک ایسی اخلاقی گندگی کی طرف توجہ دلا دی جس کے باعث میں خالق اور مخلوق سب کے لئے قابل نفرت بن گیا تھا اور میری نگاہ سے اب تک وہ چیز پوشیدہ تھی۔

حیاء

”حیاء“ ایمانی صفات اور کمالات میں سے دہا اہم کمال اور وصف ہے جسکے بغیر مومن اور مسلم ہونے کا تصور قطعاً نامکمل ہے، چنانچہ اپر آں حضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک شاہد ہے کہ ”الحیاء شعبۃ من الایمان“ (صحیح بخاری باب الایمان) کہ حیاء ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسکے دل میں حیاء نہ ہوا سلئے کہ یہ وہ بنیادی اور اساسی وصف اور صفت ہے جو بہت سی برائیوں کو روکنے کا اور بہت سی اچھائیوں کے اختیار کرنے کا سبب بنتی ہے اگر کسی کا قلب صحیح معنوں میں حیاء کے جذبات سے لبریز ہے تو وہ کبھی کسی فحاشی اور عریانی کی طرف مائل نہیں ہو گا۔ وہ کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو دعا اور دھوکہ نہیں دیگا، وہ کبھی تجارت یا لین دین میں بد دیانتی اور گڑ بڑ نہیں کریگا، وہ کبھی رقص اور سرود کی محفلیں سجا کر اور اسکیں غیر شرعی افعال کر کے لوگوں کے دین، ایمان کو تباہ نہیں کریگا۔

ہاں اگر خدا نخواستہ اسکے قلب سے یہ شرم و حیاء کا وصف زائل ہو گیا تو پھر ہر مرے سے برا کام وہ بآسانی کر گز ریگا انسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ”اذ افأتك الحياء فافعل ما شئت“ (صحیح بخاری کتاب الادب باب اذا لم تفتح) کہ جب تیرے اندر سے حیاء ختم ہو گئی تو اب جو جی چاہے کر اب کوئی چیز ایسی نہیں جو تجھے گناہوں اور برائیوں سے باز رکھ سکے اب تجھے جوئے اور سئے کے اذوں کی طرف جانا بھی آسان ہو جائیگا، فحاشی اور بدمعاشی کے اذوں کے چکر لگانے میں بھی تجھے کوئی عار نہ ہو گی، سفا کی اور خون ریزی کا بازار گرم

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زیر کی نشری تقاریر

کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں کو ایڈ نہ لے نے اور انکے شیشہ دلوں کو توڑنے میں بھی کوئی بات نہ ہوگی، اسلئے کہ ان سب براائیوں سے روکنے والی تیرے اندر ایک صفت حیاء تھی وہ ختم ہو گئی۔

تو سب کچھ ختم ہو گیا اور اگر وہ صفت باقی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس صفت حیاء دشمن کے سبب وہ بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پچتا چلا جائیگا بلکہ طاعات اور عبادات کی طرف اس کا دل کھنچتا چلا جائے گا، اور وہ خدا کا ایک مطیع اور فرمانبردار بندہ بن کر دارین کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہو جائیگا۔

لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم اس عظیم اور اہم ایمانی و صفت کو حاصل کرنے اور نیکیوں کی جڑ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اسکے سبب خود بخود براائیوں سے بچتے چلے جائیں، اور اچھائیوں سے متصف ہوتے چلے جائیں اور اس صفت کو اپنے اندر کس طرح پیدا کیا جائے اسکے متعلق مشہور تصوف کے امام حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ملاحظہ فرمائیے کہ آپ سے کسی نے جب حیاء کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہئے کہ وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار انعامات اور احسانات کو یاد کرے، جو اپر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی تقاصیر اور کوتاہیوں کو یاد کرے اور ان کا مشاہدہ کرے جب یہ دونوں چیزیں اسکے سامنے آئیں گی تو اسکے دل میں خود بخود ایک حالت پیدا ہو جائے گی، اسی حالت کا نام ”حیاء“ ہے اور جب یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر درجہ اسکی حفاظت کا آتا ہے، اور اسکی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ان اعمال، اقوال، اور افعال سے حتی الامکان پر ہیز کرے جو حیاء کی زیور کو ریزہ کر دیتے ہیں مثلاً فحش کلامی، فحش گوئی، گندے اور بے ہودہ رسائل اور کتابوں کے مطالعہ اور اس قسم کی مناظر کی دید اور اس قسم کی صحبت سے اجتناب کیا جائے۔

امانت و دیانت

آنحضرت روحي فداه صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ "لا ایمان لمن لا امانة له" (کنز العمال ج ۲ ص ۱۰۔ بحوالہ طبرانی بیہقی) یعنی جس کے پاس امانت و دیانت نہیں گویا اسکے پاس ایمان ہی نہیں۔ یہ حدیث ایک غیر امین شخص سے ایمان کی نفی کر کے امانت داری کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے اور کیوں نہ ہوا سلئے کہ امانت اور دیانت کا تعلق انسان کی حیات کے تمام اہم ترین شعبوں سے ہے۔ ایک مسلمان اگر امانت داری کی عمدہ صفت کو اپنائے تو وہ معاشرہ کا نہ صرف یہ کہ ایک بہترین فرد بن جائیگا بلکہ خدا اور اس کے رسول کے یہاں بھی اس کا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائیگا۔

اسلئے کہ امانت داری کا تعلق صرف وہ پے پیسے کے لین دین تک محدود نہیں بلکہ اس کا مفہوم بڑی ہمہ گیر و سعیت کا حامل ہے جو عبادات سے لیکر معاملات تک کو شامل ہے مثلاً یہ ہماری زندگی اور یہ ہمارا جسم خاکی اللہ کی ایک امانت ہے جو اس نے ہم کو کچھ مدت کے لئے عطا فرمائی ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس امانت کو امانت دینے والے مالک اور رب کے کہنے کے مطابق رکھیں اور اسکی مرضی کے مطابق اسکو استعمال کریں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھو لیجئے کہ ہم نے اس کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی۔ مثلاً یہ ہماری آنکھیں اسکی امانت ہیں اور یہ اسلئے ہمکو دی گئی ہیں کہ ان سے ہم اسکے آثار قدرت کا مشاہدہ کر کے اپنے یقین کو کامل کریں اسکی طرف سے آئے ہوئے قرآن و سنت کے احکامات کو بغور دیکھیں

اور ان پر عمل کریں، اگر ہم نے ان کو قرآن و حدیث یا دیگر علوم کے پڑھنے میں استعمال کرنے کے بجائے گندے، لغو یا نوش مضامین، رسائل، جواب یا کتابیں وغیرہ پڑھنے میں صرف کیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس کی امانت میں خیانت کر کے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح کان اسکی امانت ہیں، انکو اچھی اچھی باتوں کے سننے میں لگانا چاہئے، زبان بھی اس کی امانت ہے، اسکو اللہ اور اسکے رسول اور اسکے محبوبوں کے ذکر سے ہمیشہ ترکھا جائے، دست و بازو بھی اس ہی کی امانت ہیں جن کو اسکے مالک کی مرضی کے مطابق مخلوق خدا کی نفع رسانی میں لگایا جائے لہذا اگر کسی نے زبان سے کسی کو گالی دی یا ایسی بات بھی کر دی جس سے اسکا دل دکھ گیا، جھوٹ بولایا کسی کی غیبت اور بدگوئی کی تو گویا اس نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طرح کان سے کسی کی برائی سی یا بے تکلی لغو اور نوش باتیں سنیں اور ہاتھ سے کسی شخص کو ایذ ادی تو گویا وہ بھی خیانت جیسے گھناؤ نے جرم کا مرتكب ہوا۔

اور صوفیاء کرام تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں: کہ دل بھی اسکی امانت ہے لہذا اسکی بھی اسی خالق و مالک اور اسکے رسول کی محبت کے سوا کسی غیر کی محبت نہیں ہونی چاہئے، اگر ہوئی تو امانت میں خیانت ہونے کے باعث اسکا ایمان کامل نہ رہا اسی لئے ایک حدیث میں آنحضرت کا صاف ارشاد ہے کہ اس وقت تک کوئی مسون نہیں ہو سکتا جب تک میں اسکو اسکے ماں باپ اولاد غرض تمام لوگوں سے زیاد محظوظ نہ ہو جاؤ۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان) بہر حال امانت کا وسیع مفہوم ہے اور مندرجہ بالا مفہوم کے علاوہ اسکا اطلاق اور بھی چند امور پر آتا ہے جن میں سے بہت سے احادیث

ڈاکٹر ماجزا درہ ابوالخیر محمد زیر کی نشری تقدیریں
صفحہ نمبر (89)

سے ثابت ہیں۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے دراصل اسکو امانت پر دکی جاتی ہے۔ (ادب المفرد بخاری باب المنشار مؤمن) اسکا مطلب ہے کہ اگر کوئی تم سے مشورہ لے تو اسکی بات اڑاتے نہ پھرو، اسکا راز فاش نہ کرو کہ یہ راز بھی تمہارے پاس اس کی امانت ہے، اگر کسی کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو اسکا جوں کا توں مالک کو واپس کرنا بھی امانت ہے، اگر کسی نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا تو اسکو صحیح مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ اگر کوئی کسی کا نوکر یا ملازم ہے تو اسکو اپنی ڈیوٹی پوری پورے وقت میں پوری تند ہی کیا تھہ کرنا بھی امانت داری میں شمار کیا جائیگا اسی طرح حکام کیلئے یہ رعایا بخزلہ امانت ہیں انکے دکھ سکھ کا خیال رکھنا اللہ کی ایک عظیم امانت کا پاس کرنا ہوگا جسکی ذمہ داری اللہ نے تم پر ڈالی ہے۔

تقوے کے فوائد

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ ”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوے کا، پاکد امنی اور غنی کا“ (جامع الترمذی ابواب الدعوات ص ۲۰۸) اس سے معلوم ہوا کہ ”تقویٰ“ بڑی اہم اور عظیم چیز ہے کیونکہ خود نبی رَوْف و رحیم اس کو خدا کی بارگاہ سے دعا میں مانگ کر طلب کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جس چیز کو مصطفیٰ خدا کی بارگاہ سے مانگیں گے وہ چیز بہت ہی قیمتی اور گراں ہوگی، بے شمار فوائد اور ثمرات سے مالا مال ہوگی، اس لئے بے کار اور بے فائدہ چیز تو حضور کبھی مانگ نہیں سکتے۔ آئیے ذرada یکھیں کہ تقویٰ میں کیا کیا فوائد مضر ہیں، لیکن اس سے پہلے ضمناً یہ سمجھتے چلیں کہ تقوے کے کیا معنی ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے۔

دراصل تقوے کے لغوی معنی ”بچنے“ کے ہیں اور اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں انسان خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے نفس کو ہر اس اقدام سے بچائے اور محفوظ رکھے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہو۔ یہ ایک ایسا عام مفہوم ہے جو انسان کے تمام شعبہ ہائے زندگی پر محیط ہے، خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، تجارت ہو، امور خانہ داری ہو، ملکی معاملات ہوں یا میں الاقوامی تعلقات ہوں غرض ہر قسم کے دینی اور دنیوی امور کو خدا اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلانے کا نام تقویٰ ہے۔ لہذا انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ تقوے سے باہر نہیں ہو سکتا، اسی لئے قرآن میں ”تقوے“ کو لباس کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے فرمایا گیا

کہ ”ولباس التقویٰ ذالک خیر“ کہ تقوے کا لباس سب سے اچھا لباس ہے تو تقوے کو یہاں لباس سے اسی لئے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح انسان ظاہری لباس سے کبھی باہر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ”تقویٰ“ جو اس کے لئے معنوی لباس ہے اس سے بھی وہ کبھی باہر نہیں ہو سکتا۔

”تقویٰ“ حاصل کرنے والے انسان کو دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دنیاوی فوائد تو یہ ہیں کہ جب وہ خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی برکرے گا تو نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی خوشگوار گزرنے کی بلکہ اس کے ساتھی اور دوست، اس کے ہمایے اور پڑوی بھی اس سے فرحت اور سکون پائیں گے اور پھر جب معاشرے کا ہر فرد تقوے والا بن جائے گا تو پورا معاشرہ سکون اور طہانیت کا گھوا رہ بنتا چلا جائے گا۔ پھر وہ ایسا پا کیزہ معاشرہ ہو گا جہاں چوری کا ذر ہو گا نہ ڈاکے کا، نہ فتنہ و فساد کا خوف ہو گا نہ قتل و قتال کا، نہ عزتوں کے لئے کی فکر ہو گی نہ عفتوں کے تاریخ ہونے کی بلکہ ہر شخص تقوے کے باعث ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار، معین و مددگار بن جائے گا۔ دنیاوی فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ یہ بھی حاصل ہو گا کہ اس مقیٰ انسان کی تمام مشکلیں اور مصیبتیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اس لئے کہ قرآن کا ارشاد ہے ”وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَقِينَ“ کہ اللہ تقوے والوں کا دوست ہے، تو جب وہ کائنات کا رب، وہ حکم الحاکمین اس کا دوست بن گیا پھر بھلا اس کے لئے کوئی مشکل باقی رہ سکتی ہے۔

آخری فوائد میں مقیٰ کو ایک فائدہ تو یہ حاصل ہو گا کہ جنت اور جنت کی تمام نعمتیں اس دن اس کے لئے ہوں گی، چنانچہ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ ”ان

المتقین فی جنات و نعیم" کہ بے شک تقوے والے باغوں اور نعمتوں میں گھرے ہوئے ہونگے، اور پھر ایک سچے مسلمان کے لئے جنتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے لئے توسب سے بڑی چیز خدا کی رضا اور خوشنودی ہے، تمام کام اسی لئے کرتا ہے تاکہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، اب خدا کی طرف سے بھی اس کے لئے خوبخبری سنادی جاتی ہے کہ "فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ" کہ بیشک متقین یعنی تقوے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لئے اور کیا خوبخبری ہو گی کہ خدا نے اس کو اپنا محبوب بنالیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی تمام نعمتوں کا صلہ مل گیا، خدا کی رضا اور خوشنودی کیا ملی آج اس کو دونوں جہاں کی دولتیں مل گئیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف خدا کی محبت اس کو مل گئی بلکہ خدا کے محبوب بن جانے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر خدا کے تمام بندے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، مخلوق خدا کے قلوب اس کی عقیدت اور محبت کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں۔

اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ روحي فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اپنے مقرب فرشتے جبریل سے فرماتا ہے کہ اے جبریل! مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے تو بھی اس سے محبت کر، چنانچہ جبریل پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ کو محبت ہے، اے آسمان والوں! بھی اس سے محبت کرو چنانچہ تمام اہل سماء اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین پر اس بندے کی

مقبولیت رکھ دی جاتی ہے جس کے باعث بندگان خدا کے دل خود بخود اس کی طرف کھنپے چلے آتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ خواجہ نقشبند، حضرت امام ربانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری، شاہ عبد اللطیف بھٹائی جیسے بزرگان دین کے نام کا آج بھی عالم میں ڈنکانج رہا ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نے ان کو اپنا محبوب بنالیا تھا۔

نماز کی اہمیت

انسان کسی دنیاوی حاکم یا بادشاہ کے دربار میں کسی طرح رسائی حاصل کرنے کیلئے بے چین و بے قرار رہتا ہے لیکن ذرا غور کیجئے کہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ انکو کائنات کے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، اس احکم الحاکمین اور رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں نماز جیسی عبادت کے ذریعہ دن اور رات میں پانچ مرتبہ حاضری نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ اسکے ذریعہ اپنے رب سے مناجات بھی کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سب سے زیادہ محبوب عبادت تھی اور آپ بلاں کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ "اقسم الصلوة یا بلاں ارحنا بها" (مشکوٰۃ باب القصد فی العمل) یعنی اے بلاں آذان دوتا کہ ہم نماز پڑھ کر راحت و سرت حاصل کریں، اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کیف و سرت کے ساتھ ساتھ انتہائی خشوع و خضوع کو اختیار فرماتے تھے کیونکہ جب ادنیٰ سے کسی دنیاوی حاکم اور بادشاہ کے دربار میں وہاں کی حاضری کے آداب ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں تو پھر احکم الحاکمین کی بارگاہ میں وہاں شایان شان آداب کا کیوں نہ لحاظ رکھا جائے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یوں تصور کشی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ کر با تین کرتے تھے اور ہم ان سے با تین کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو گویا آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے نہ آپ ہم کو جانتے ہوں نہ ہم آپکو (مکافحة القلوب

اس حدیث میں اس بارگاہِ لمبزول کے اندر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے شوق اور رغبت کا بیان ہے جبکہ حاضری کے بعد جو آداب حاضری آپ ملحوظ رکھتے تھے اسکا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ ایک روز ابو جہم نے ایک سیاہ چادر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی آپ نے اسکو اوڑھ کر نماز پڑھی لیکن نماز میں آپ کی توجہ چادر کی خوبصورتی کی طرف ہو گئی تو نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فوراً وہ چادر اتار دی اور صاحبہ سے فرمایا کہ یہ چادر واپس ابو جہم کو دے دو کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا مجھے تو سادی چادر دے دو۔ (صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ج ۱ ص ۲) اس حدیث سے جہاں بارگاہِ الٰہی میں حاضری کے آداب کا پتہ چلا وہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دنیا کے وہ تمام کام، مصروفیتیں، امور، غرض وہ تمام چیزیں جو تمہارے دل سے خدا کی یاد کو ختم کر دیں اور تمہیں خدا سے غافل کر دیں وہ سب تمہارے لئے حرام اور باعث عذاب ہیں اور وہ کام جو تمہیں خدا سے غافل نہ کریں بلکہ خدا سے ملا دیں وہ دنیاوی کام بھی تمہارے لئے باعث رحمت و ثواب ہیں بلکہ عبادات ہیں اور نماز یہ تو وہ عبادت ہے جو خدا کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ”اگر خدا کو نماز سے زیادہ کوئی اور عبادت محبوب ہوتی تو فرشتوں کو اسکے لئے مقرر کرتا حالانکہ ان کے لئے صرف نماز کے افعال مقرر کئے ہیں یعنی کوئی رکوع کر رہا ہے تو کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہے اور کوئی بیٹھا ہے۔

یوم الحج

یوم الحج یعنی حج کا دن بڑا مبارک اور مسعود دن ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک دن میں اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا کر ان پر جوانعامت و اکرامات کی بارش کرتا ہے اسکا اندازہ اس حدیث مبارک سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کیسا منے عرفہ کے دن وقوف کرنے والے بندوں پر فخر اور نازکرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ملائکہ دیکھو میرے بندوں کو میرے پاس پر اگنده بال اور غبار آلودہ حالت میں لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہوئے اور گریہ و بکاء کی چیزوں سے شور مچاتے ہوئے دور دراز سے دوڑتے ہوئے آرہے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بنانا کرا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا فرشتے عرض کریں گے کہ اے رب اس مجمع میں تو فلاں مرد اور فلاں عورت بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا (مشکلاۃ باب الوقوف بعرفہ) اسپر حضرت ملاعلیٰ قاریٰ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے ”وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْفَقُونَ عَلَيْهِمْ“ کہ یہ خدائی صالح بندے وہ ہوتے ہیں کہ انکے ساتھ رہنے والے بھی ترجاتے ہیں، اور انکے صدقہ میں انکی بھی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی اس شان کی ہوتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ اسکے گناہ ریت کے ذردوں کے برابر کیوں نہ ہوں اس روز اس رحیم و کریم کے دریائے رحمت و بخشش میں سب بہتے چلے جائیں گے (طبرانی، بزار) اور نہ صرف یہ کہ اسکے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اگر وہ صدقہ دل سے کسی کی سفارش بارگاہ خداوندی میں کرے

تو اسکے بھی خدا گناہ معاف فرمادیگا (طبرانی، بزار) یہ تو ان لوگوں کا حال اور ان لوگوں کی شان ہے جو اسوقت خدا کے مہمان ہوتے ہیں اور حرم شریف کی عفو بارفضاوں میں سانس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو دور افتادہ، مکہ و مدینہ سے بہت دور دراز علاقے میں ہوں لیکن دل میں یادِ الٰہی کی دلیپ جلانے اور عشقِ مصطفیٰ کی شمع فروزان کئے ہوئے عفو خداوندی کے امیدوار ہوں اور رحمتِ الٰہی کے طلبگار ہوں تو خدا کی بیکرائی رحمت انہیں بھی اپنے آنکھوں میں لے لیتی ہے اور اسے بھی مژده مغفرت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے، لیکن اسکے لئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ وہ شخص اپنے آپ کو اس دن گناہوں سے محفوظ رکھے چنانچہ آنحضرت روحي فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن اپنے کان آنکھ اور زبان کی حفاظت کریگا تو اللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمادیگا۔ (مندِ احمد، طبرانی) خدا کے بیکرائی انعامات و اکرامات کے مقابلہ میں یہ شرط کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن افسوس اس مبارک اور مسعود دن کو خدا کی عبادت اور اطاعت میں گزارنے کے بجائے ہم اسکو لہو و لعب اور تسلی اور کامیابی کی نظر کر دیتے ہیں، اگر ہم عزم کر لیں کہ آج کے دن خود کو گناہوں سے حتی الامکان بچائیں گے، نہ ممنوعہ چیزوں کی طرف دیکھ کر آنکھ کا گناہ کریں گے، نہ برائی، نخش اور گندی باتوں کو سنکرانپنے کا نوں کا گناہ کریں گے اور نہ زبان سے کوئی غیبت، چغل خوری اور جھوٹ وغیرہ بول کر زبان کا گناہ کریں گے تو انشاء اللہ یہ دن نہ صرف ہمارے لئے دین و دنیا کی فلاح اور کامرانی کا دن ہوگا بلکہ ہمارے دوستوں اور ہم نفسوں اور ہمسایوں کیلئے بھی راحت و عافیت، اور امن و رحمت کا پیغام بن جائیگا۔

حضرت یگیٰ علیہ السلام

حضرت ذکر یا علیہ السلام عمر کی اب آخری منزل کو پہنچ چکے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، جسم نحیف و ناتواں ہو گیا تھا، کمزوری اور نقاہت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آپ زیادہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لہ صرف اپنی عبادت گاہ اور ہیکل تک بمشکل جاتے اور عبادت کر کے واپس گھر آ جاتے تھے، یہ بڑھا پا اور اس پر زندگی کے ایک اہم غم اور ایک عظیم فکر نے آپ کو اور بھی مضمحل کر دیا تھا اور وہ غم یہ تھا کہ عمر کے اس آخری حصے میں آپ ابھی تک بچہ سے محروم تھے، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، آپ کو یہ بات ہمیشہ محرzon و اشکبار رکھا کرتی تھی کہ اب میرے بعد کون میرے اس علم و حکمت کا وارث بیگا؟ کون اس طوفان خیز آندھیوں میں علم کو بلند رکھے گا؟ لہذا اس گلشن بوت کی رونق کے لئے آپ ہر وقت بارگاہ الہی میں دست بدعا رہتے تھے۔

اگر چہ آپ اپنے بڑھاپے اور اپنی زوجہ محترمہ کے با نجھ ہونے کے باعث اولاد سے بالکل مایوس ہو گئے تھے لیکن آپ بھی خدا کی رحمت سے نامیدانہ تھے اور یہ امید ان کی اس وقت اور بھی تو ہو گئی جب انہوں نے ایک روز ہیکل میں حضرت مریم علی نبینا و علیہا السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو بڑے تعجب کی ساتھ پوچھا ”یا مریم اُنی لکِ هذا؟“ اے مریم یہ پھل اس وقت تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ ”قالتْ هُو مَنْ عَنْدَ اللَّهِ“ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی نامیدی امید میں بدلتی چلی گئی اور ان کو یقین ہو گیا

کہ جو ذات اس بے موسم میں مریم کو پھل عطا کر سکتی ہے وہ اس نا امیدی کی حالت میں ”بیٹی“ کی صورت میں ہمیں شرحیات بھی عطا کر سکتی ہے۔

چنانچہ آپ اسی وقت یقین کامل کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کے لئے مصروف ہو گئے اور ہاتھ پھیلا کر خدا سے یوں مانگنے لگے ”قال رب هب لی من لدنك ذریة طيبة انك سمیع الدعاء“ اے میرے پروردگار مجھے اپنے فضل سے پا کیزہ اولاد عطا فرمابلا شبہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ ادھرنی کے ہاتھ اٹھے ادھر بارگاہ الہی میں دعا مقبول ہوتی چلی گئی، اور جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے عبادت میں مصروف تھے تو خدا کی طرف سے ایک فرشتہ نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کے زندگی کے نکل سے مشکل ترین حالات میں بھی ہمیں کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہئے، وہ جب بے موسم پھل لانے پر قادر ہے تو نا امیدی میں ہماری امیدیں برلانے پر بھی قادر ہے، یہ وہ ہی قادر مطلق ہے جو ہر رات کی ظلمت اور تاریکی میں سے روشنی و نور کی کرنیں نکالتا ہے، تو وہ ہی ہمارے غم و الم کے ظلمت کده میں فرحت و سرست کی کرنیں بھی بکھیر سکتا ہے لہذا ہمیں دنیا کے بڑے سے بڑے غم و اندوہ سے پریشان اور متفکر نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اس قادر مطلق کے حضور اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہئے کہ وہ ہی پریشان حالوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر شفیق و مہربان ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس یقین کے ساتھ اگر ہم نے اسکے حضور دعا کی تو ان شاء اللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی اور جو ہمارے لئے بہتر ہوگا اس ہی کے مطابق نتیجہ ظاہر ہوگا۔

الغرض اس فرشتہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ولادت کی بشارت بھی دی اور اس نو مولود کے محاسن و مکالات کی بھی پیش گوئی کی جس کو قرآن اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے ”فَنَادَتِهِ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يَصْلَى فِي الْمَحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكَ بِيَحِيَيٍّ مَصْدِقًا بِكَلْمَةِ مِنْ اللَّهِ وَسِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ“ یعنی جب حضرت زکریا علیہ السلام مجرہ کے اندر نماز میں مشغول تھے تو فرشتوں نے آپ کو آواز دی کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری سناتا ہے جو شہادت دیگا اللہ کے ایک کلمہ کی، صاحب مرتبہ اور برگزیدہ ہوگا اور گناہوں سے بالکل پاک ہوگا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔

چنانچہ اس بشارت کے عین مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام ان مذکورہ بالا محاسن اور خوبیوں کے ساتھ اس عالم میں تشریف لائے آپ کا بچپنہ عام پچوں کی طرح کھیل کو دا اور لہو و لعب کی نذر نہ تھا بلکہ آپ کو خدا کی طرف سے عہد طفویلت میں ہی علم و حکمت سے مالا مال کر دیا گیا تھا، چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بچپن میں جب آپ کے ہم عمر بچے آپ سے کھیلنے کے لئے اصرار کرتے تو آپ ان کو یہ جواب دیتے تھے کہ خدا نے مجھے لہو و لعب کے لئے پیدا نہیں کیا۔ اور ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ مستقبل میں عظیم انسان بننے والے کو خدا بچپن ہی سے برے اور بے فائدہ کاموں سے ہشا کر اچھے، مفید اور عظیم کاموں کی طرف لگا دیتا ہے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بچپن ہی سے علم و حکمت کا خوگر بنا کر نبوت کے عظیم بارگراں کو برداشت کرنے کا اہل بنادیا۔ جب وہ اس عظیم منصب کے لاکن ہو گئے تو تمیں سال کی عمر سے قبل ہی آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔

آپ کی ولادت سے قبل آپ کے اوصاف کے متعلق جتنی بشارتیں دی گئی تھیں وہ سب آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں، چنانچہ آپ کو ”سید“ کہا گیا جس کے یہاں معنی حلم کے بھی ہیں عالم و فقیہ کے بھی ہیں، دین و دنیا کے سردار کے بھی ہیں، شریف و پرہیز گار کے بھی ہیں اور یہ سب آپ میں بدرجہ کمال موجود تھے تھے تھے اور پرہیز گاری کا تو یہ عالم تھا کہ آپ نے عمر بھر شادی نہیں کی لیکن کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ تک نہیں آیا۔

دوسری آپ کی صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ ”حضور“ ہیں۔ ”حضور“ اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مادہ ”حضر“ ہے اس کے معنی رکاوٹ کے ہیں تو حضور کے معنی یہ ہونگے کہ خدا کے نزدیک جن امور سے رکنا ضروری ہے ان سے رک جانے والا، تو یہ معنی بھی حضرت میجری علیہ السلام میں کامل طور پر موجود تھے کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر اس کام سے اجتناب کیا جس کی خدا کی طرف سے ممانعت تھی حتیٰ کہ وہ امور جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں رکاوٹ بنتے تھے، اس استغراق میں مخل ہوتے تھے آپ نے اپنی تمام زندگی ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی جیسے، شادی اور نکاح ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد انسان تمام وقت خدا کی عبادت میں صرف نہیں کر سکتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اب ان فرائض کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔

تو چونکہ یہ امور اور فرائض اس توجہ الی اللہ میں مخل ہوتے تھے اس لئے حضرت میجری نے اپنی تمام زندگی اس سے اجتناب کیا اور کبھی بھی شادی نہیں کی بلکہ اپنی ساری زندگی کا اکثر حصہ جنگلوں اور صحراؤں میں بسر کیا اگرچہ یہ عزلت نہیں، دنیا

والم دنیا سے انقطاع روحانی کمال حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس ہی پر عمل پیرا ہو کر بڑے بڑے انبیاء اور رسولوں نے خدا کا قرب حاصل کیا لیکن جب احمد محبیؑ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کرت تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ "لا رہبانیہ فی الاسلام" (کشف الخفا للعجلونی ۵۲۸/۲) کہ دنیا سے انقطاع، تبتل و رہبانیت کے یہ سب طریقے اسلام سے قبل تھے، اب اسلام میں اس رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، اب کمال حاصل کرنے کے لئے قرب الہی کی لذتوں سے بہرہ ور ہونے کے لئے، عروج و ارتقاء کی منزلوں کو چھونے کے لئے، اب غاروں پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اب دوستوں اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب عمر بھر شادی نہ کر کے نسل انسانی کو منقطع کرنے کی کوئی احتیاج نہیں بلکہ اس ہی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے سب مقام حاصل کئے جاسکتے ہیں اور عروج و ارتقاء کی رفتتوں پر پہنچا جا سکتا ہے۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر شاہد ہے کہ آپ نے تبتل اور رہبانیت کی زندگی بسر نہیں فرمائی بلکہ احباب کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق ادا کئے، رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر ان کا خیال رکھا، شادیاں کر کے بیویوں کے حقوق ادا کئے، اور اس ہی میں عبادت الہی کر کے اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کئے اور اس طرح کامیاب اور کامل زندگی کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے اوصاف و محسن کا ایک درخشاں پہلو آپ کا جذبہ خشیت الہی ہے، آپ ہر وقت خدا کے خوف سے لرزائی و ترسائی رہا کرتے

تھے۔ خشیت الہی کے باعث آپ پر ہمیشہ گریہ طاری رہا کرتا تھا۔ چنانچہ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ خوف الہی میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ روتے ہوئے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنگل کی طرف گئے تو دیکھا پہاڑ کے دامن میں آپ بیٹھے ہوئے گزیہ وزاری میں مصروف ہیں یہ دیکھ کر باپ نے کہا کہ بیٹا ہم تو تیری یاد میں بے چین و پریشان سر گردان و حیران ہیں اور تو یہاں بیٹھا ہوا آنسو بہار ہا ہے، اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ”اے ابا جان آپ نے ہی مجھ کو بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لق و دق میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہو سکتا اور اشک باری کے بغیر جنت تک رسائی نہیں ہو سکتی اس لئے میں روہا ہوں یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور آپ بھی خدا کے حضور تضرع وزاری میں مصروف ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”رونا“ بھی عجیب چیز ہے، خدا کی محبت اور اس کی خشیت میں جب بندہ روتا ہے تو اشکوں کی برسات سے اس کے تمام گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں اور خدا کی رحمتیں اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں، اور اقبال کا مرشد رومنی تو اس کا خوب فلسفہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ

ہر کجا آب روں خضرت بود

ہر کجا اشک روں رحمت بود

یعنی جہاں پانی روں ہوتا ہے وہاں سبزہ لہرانے لگتا ہے اور گل و گلزار کھل اٹھتے ہیں، اور جہاں آنسوؤں کا پانی روں ہوتا ہے وہاں رحمت خداوندی کے پھول

کھلنے لگتے ہیں، قلب کی ظلمیتیں چھٹی چلی جاتی ہیں اور سرور سے فضامعمور ہو جاتی ہے۔ اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے اکثر اشکوں کی برسات جاری رہتی تھی، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو ایسا غلبہ حال ہوتا تھا کہ روتے روتنے آپ کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں۔ بہر حال حضرت یحیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے جو ہمہ وقت خدا کی یاد میں مستغرق اس کے خوف اور محبت میں گریاں وتر سار رہا کرتے تھے۔ آپ نے جب اعلاءِ کلمہ حق کیا، معبد و ان باطلہ کی مخالفت کر کے ایک معبد برحق کی طرف لوگوں کو بلایا، توریت کے اسباق یہود کو یاد دلانے شروع کئے تو یہ قوم آپ کی جان کی دشمن اور آپ کے خون کی پیاسی ہو گئی۔

اس زمانہ میں چوتھائی ملک کا بادشاہ اور حاکم ہیرودیس روی تھا اس کے اپنے بھائی فیلیوس کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے۔ حضرت یحیٰ علیہ السلام حاکم وقت کو اس کے ان فتنج اور ناپاک افعال پر تنبیہ فرمایا کرتے تھے جو اس کو بڑی ناگوار گزرتی تھی آخر روز روز کی نکتہ چینی سے شگ آ کر اس نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو قید کرا دیا۔ ہیرودیس کی محبوبہ اس کو ہمیشہ حضرت یحیٰ کے خلاف سخت انتقامی کارروائی کرنے پر اکساتی رہتی تھی لیکن وہ ہر بارٹال جاتا تھا، ایک روز جبکہ اس کی سالگرہ کا دن تھا، عیش و عشرت کی محفل گرم تھی، اس کی محبوبہ کی لڑکی نے اپنے رقص و سرود سے اس حاکم کو ایسا مسحور کیا کہ وہ خوشی میں یہ قسم کھابیٹھا کہ توجو مانگے گی تھے وہی ذیا جائے گا، اس نے اپنی ماں کے اشارے پر طلب کیا تو یہ کہ اس کو حضرت یحیٰ کا سر چاہئے، حاکم وقت نے اپنی قسم کو پورا کرنے کی خاطر جلال دکو حکم دیا جس نے حضرت

یہی کو قتل کر کے آپ کا سرا ایک طشت میں رکھ کر حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہ ایک نہیں نہ جانے کتنے خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کو اس قوم نے اسی طرح تباہ کیا تھا۔

چنانچہ قرآن ان کی اس سفا کا نہ روشن کو یوں بیان کرتا ہے کہ "ان الذين كفروا بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم" جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناقص پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو ان کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو ان کے لئے دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ قرآن شاہد ہے کہ پھر ان پر وہ عذاب نازل ہوئے کہ جس کو سن کر بھی رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ قوم یہود جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اللہ نے اس کی سزا میں ان کو زمین میں دھنسا دیا۔

آج بھی بعض لوگ علماء اور اولیاء کی قتو ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں ان کو تکلیفیں اور ایذا میں پہنچاتے ہیں وہ خدا سے ڈریں اور توبہ کریں کہیں وہ بھی اس وعدہ میں شامل ہو کر خدا کے دردناک عذاب کے مستحق نہ بن جائیں اس لئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ علماء عظام اور اولیائے کرام حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نبی اسرائیل کے مثل ہیں خود سرکار رسالت مآب کا ارشاد ہے کہ "علماء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل" لہذا ان کی تو ہیں دایزاداء انبیاء کی تو ہیں دایزاداء کی مثل ہے، جس طرح ان کے لئے دردناک عذاب کی وعدہ ہے اسی طرح ان عشق رسول سے سرشار علمائے حق کی تکلیف دایزاداء اور ان کی تو ہیں بھی غضب الہی کا موجب ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ثانی اشیاء

اس ذاتِ ہمایوں صفات کی کیا مدت سرائی کی جائے جس کی تعریف و توصیف خود خدا اور خدا کا حبیب کرتا ہو، جس کے خلوص ووفا، جود و عطاء، اعمال بے ریا، اور عشق مصطفیٰ پر جہاں آیات قرآنی صدائے تحسین بلند کر رہی ہوں، اور دفور محبت میں دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے خود اقوال مصطفیٰ جسکی عزت و افتخار کو رشک صد جہاں کر رہے ہوں اس کی مدح و ثناء کس کے لس کا کام ہے ایسی جامع و کامل ذات کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کیلئے میرے زدیک پروردۂ آنحضرت، کان حیاء و مرودت، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فیض ترجمان سے آپ کی تعریف میں نکلے ہوئے یہ الفاظ نقل کر دینا کافی ہے کہ ”وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہتر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں،“ (مشکوٰۃ شریف بحوالہ ترمذی ص ۵۵۵)۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمزشناس اور حقیقت بین نگاہ نے اس مرد با خدا پر آقائے دو جہاں سرور کون مکان کے الطاف و عنایات کی بارشیں برستی دیکھ کر ان چند کلمات میں حقیقت کو جس طرح بے نقاب کیا ہے اور اس با جمال و با کمال شخصیت کی تعریف کو ان دو کلموں میں جس طرح سمو کر

رکھ دیا ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے متراوف ہے، وہ عمر، جس کو مصطفیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم نے بارگاہ رب العزت سے دامن طلب پھیلا پھیلا کر مانگا تھا، وہ پیاری اور محظوظ ذات یوں گوہ رافتانی فرمائے کہ "احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کہ نگاہ نبوت میں سب سے زیادہ محظوظ شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو اس سے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کیا تعریف ہو سکتی ہے۔ عمر نے سچ فرمایا کہ بارگاہ رسالت کی محظوظ ترین ذات ابو بکر ہے، اس لئے کہ جب ایک محبت عشق و محبت میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی نظر میں سوائے محظوظ کے اور کوئی نہیں رہتا، اس کی زندگی کا اولین و آخرین مقصد صرف اور صرف محظوظ کی ذات بن جاتی ہے، بلکہ جب اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ:

تیری آرزو میں جینا تیری جتو میں مرتنا

یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے

تواب وہ "محبت" سے "محظوظ" بن جاتا ہے اور "محبوبیت" کے اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہو کر وہ اپنے محظوظ کی نگاہ لطف و کرم کا تارہ بن جاتا ہے یہی حال اس "صدق عتیق" کا ہے جنہیں اپنے آقا و مولیٰ روح کائنات، جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ محبت تھی جس کی نظیر تاریخ عالم کے صفات پر ملنی مشکل ہے جس کا کچھ نقشہ علامہ اقبال نے یوں کھینچا ہے کہ:

پروانہ کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

صدقیق کیلئے ہے خدا کا رسول بس

پھر ایسا محبت با وفا، ”محبوبیت مصطفیٰ“ کی خلعتِ فاخرہ سے اگر سرفراز نہ ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اس ہی حقیقت کا اعتراف علی المرتضی شیر خدا مشکل کشار پڑی اللہ تعالیٰ عنہ نے واشگاف الفاظ میں یوں بیان فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دارفانی سے رحلت فرمائی اور آپ کے جسم اطہر پر چادر ڈال دی گئی تو اس جان کا ہ خبر سے تمام مدینہ میں کہرام مج گیا اہل مدینہ کی آہ و فغاں سے مدینۃ الرسول کی درود یوار لرزائھیں، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ یہ فرمار ہے تھے کہ ”اَنَا لِلَّهِ وَاَنَا لِيْهِ رَاجِعُونَ“ آج خلافت نبوت کا خاتمہ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس پہنچے اور آپ نے فرمایا ”اے ابو بکر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، آپ ان کے مونس تھے، آپ ان کے مرجع و معتمد تھے، اور آپ کے رازدار و مشورہ دینے والے تھے، آگے فرمایا کہ، آپ سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں مقرب تھے، اور اطوار و عادات، بزرگی و شرافت کے لحاظ سے سب سے زیادہ رسول خدا کے مشابہ تھے۔ (از الْخَفَاءِ ص ۱۲۹)۔

اسہی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے ابو بکر کی تعریف میں کچھ اشعار کہے ہیں، تو شاعر رسول اللہ، الموید بروج القدس نے جواب دیا کہ جی ہاں! یا رسول اللہ یہ اشعار میں نے ان کی مدح میں کہے ہیں۔

وَثَانِي اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ

وَطَافَ الْعَدُوُّ بِهِ اذْ صَعَدَ الْجَبَلَا

وَكَانَ حَبَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا

مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدَلْ بِهِ بَدْلًا

ترجمہ: جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلندو بالا پھاڑ پر تشریف لے گئے اور دشمنوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت غار میں حضور کے "ثانی اثنین" یہی ابو بکر صدیق تھے، اور سرور کائنات کو جوان سے محبت تھی وہ سب پر عیاں ہے، کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہ تودہ ذات ہے کہ آقائے دو جہاں کی نگاہ میں اس کا بدل کوئی نہیں ہے، آگے روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار سننا پکے تو مصطفیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم نے خوش ہو کر تبسم فرمایا، فرحت و میرت کے باعث آپ کے لہجے مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی (از الہ الخفا عجمی ۲۲۳)

یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ
گئی

یوں لب کشنا ہوئے کہ گلستان بنادیا

معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبویت کے جس اعلیٰ وارفع مقام پر فائز تھے اس سے تمام صحابہ کرام بخوبی آشنا بلکہ اس کے معرفت تھے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کے اظہار اور ان کی تعریف سے سرور ہوا کرتے تھے لہذا آج اس یار غار کی جو تعریف کرے گا یا ان کی مدح و ثناء کی محفلوں میں کسی طرح سے حصہ لے گا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زیر کی نشری تقاریر صفحہ 110

خوشنودی کا مستحق بن کر سعادت دارین سے سرفراز ہو گا۔

لیکن یاد رکھئے ”محبوبیت“ کے اعلیٰ و ارفع مقام تک رسائی سے پہلے انہائی کٹھن اور جگر سوز حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، بڑے دردناک مصائب اور صبر آزماء واقعات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مال و اولاد حتیٰ کہ ”جان“، جیسی متاری عزیز تک کو محظوظ پر قربان کر دینے کے سخت ترین امتحان سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اگر ان تمام پر خطر وادیوں سے وہ کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو پھر مژده ہے اس کے لئے خلوت کدہ یا رکے دروازے اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور مبارک ہو اس کو کہ اب آغوش محظوظ اس کے لئے واہے سیدنا صدقیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مقام محبوبیت تک پہنچنے کے لئے زندگی کے سخت ترین امتحانات سے دو چار ہونا پڑا۔

جب محظوظ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے صحابہ کو مال و دولت لانے کا حکم دیا تو یہی ایک محبت صادق، صدقیق باوفا تھا جو گھر سے سب کچھ سنبھل کر لے آیا اور تمام گھر کا اٹاٹا شہ اپنے محظوظ کے قدموں میں لا کر ڈالا اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ”گھر میں کیا چھوڑا؟“ تو وہ محبت جس کے ”نہاں خانہ دل“ میں سوائے ”محظوظ“ کے کچھ نہ تھا اس کے دل کی گہرائیوں سے یہی صداب لند ہوئی کہ ”یار رسول اللہ آج یہ میرا“ ”غریب خانہ“ میرے ”خانہ دل“ کا آئینہ دار ہے، جس طرح میرے دل میں سوائے خدا اور اس کے رسول کے کچھ نہیں ہے اس ہی طرح آج اس گھر میں بھی سوائے اس کے اور کچھ باقی نہیں ہے اس مقام عشق کو مولا ناروم علیہ الرحمہ یوں بیان فرماتے ہیں

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالحییم محمد زیر کی نشری تفاصیر

منوہر (111)

خانہ دامن و فتم از نیک و بد
 خانہ ام پر ہست از عشق احمد
 اسہی مضمون کو عارف رومی نے دوسرے مقام پر اپنے دل کش و دربا
 انداز میں یوں ظاہر فرمایا کہے

عشق آں شعلہ ست کو چوں بر فروخت
 ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
 غرضکہ اسلام کے اس فرزند جلیل نے اپنا تمام مال و دولت جو تقریبا
 چالیس ہزار درہم اور برداشت دیگر اسی ہزار درہم تھا اپنے آقا و مولیٰ والی
 دو جہاں کے نام پر قربان کر کے اس امتحان میں عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اس
 محبت صادق کی اس بے ریا اور مختلف انہ پیشکش اور اس عظیم مالی قربانی کو بارگاہ
 رسالت میں کس شان کے ساتھ حلہ قبولیت سے نوازا گیا اس کا اندازہ مجر صادق
 روحی و قلبی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ
 ”جس کسی نے ہمیں کچھ دیا ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس
 نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے اور وہ نیکی و بخشش کی ہے کہ اس کا بدلہ قیامت
 کے دن خود خدا تعالیٰ ہی دے گا، اور کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں
 پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔

یہ تو مالی قربانی کے بارے میں ”تمغہ قبولیت“ جو بارگاہ نبوت سے ابو بکر
 رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا، جس سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ اس کئھن اور پر خطر

وادی کو ابو بکر نے کامیابی کے ساتھ طے کر لیا، لیکن ابھی ”قربانی جان“ سے دربغ نہ کرنے کا ایک اور اہم دشوار گزار مرحلہ باقی ہے آئیے! ذرا دیکھیں کہ اس آگ کے سمندر کو ابو بکر نے کس طرح عبور کیا، اور خود کو اس ہوش ربا اور جان کاہ امتحان میں کس طرح کامیابی سے ہمکنار کیا، اور کن کن دل دوز اور جگر پاش مصیبتوں سے دوچار ہو کر بارگاہِ مصطفیٰ میں محبوبیت کا مقام حاصل کیا۔

دشمنانِ اسلام کی ایذا رسانیوں اور اذیت ناکیوں نے جب خدا کے حبیب کے لئے مکہ میں رہنا دو بھر کر دیا تو نبوت کے تیر ہویں سال وحی الہی کے مطابق آپ نے ” مدینۃ المنورہ“ ہجرت کرنے کا عزم فرمایا، اس پر خطر اور مخفی سفر میں آپ نے اپنی رفاقت اور ہمراہی کا اگر کسی کو شرفِ عطا کیا تو وہ یہی ” صدیق باوفا“ کی ذات تھی، نورِ مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے وفا شعارِ رفیق، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے، راستہ بڑا سنگلاخ تھا، نو کیلے پھر سرکار کے زم و ملائم قد مہائے مبارک کو زخمی کر رہے تھے کہ اس وقت، اس صدیق جاں ثمار سے یہ دیکھانہ گیا اور آپ کو اپنے کانڈھوں پر اٹھالیا اور اپنے پیروں کے لہولہاں ہونے کی پرداہ تک نہ کی اس لئے کہ یہ عشق کا ایک مقام ہے۔

گر بر یزد خون من آں دوست رو

پائے کو باں جاں بر افشا نم برو

بہر حال اس طرح سے مکتب عشق کا یہ ہونہا فرزند اس آخری امتحان کی پہلی سیرہ میں کو بھی کامیابی و کامرانی سے طے کر گیا آخر کار یہ مختصر ساقا فلہ مکہ سے چار

پانچ میل کے فاصلے پر ”کوہ ثور“ پہنچ گیا غار پر پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولیٰ کو باہر ٹھہرایا، وہ غار جس میں بر سہابہ مسکن سے کسی آدمی کا گزر تک نہ ہوا ہو، جو حشرات الارض اور مختلف قسم کے زہریلے جانوروں کا مسکن بنا ہوا تھا اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے پہلے داخل ہوتے ہیں کہ کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے جو گزرے پہلے مجھ پر ہی گزر جائے۔

بے خطر کو دپڑا آتشِ نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

یہ ہے وہ عشق کا مقام جہاں ابو بکر کو اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ کی جان عزیز اور پیاری تھی بہر حال کملی والے کا یہ قابل فخر اور لائق ناز صحابی پہلے خود اندر جا کر غار کو صاف کرتا ہے، تن کے کپڑے پھاڑ کر غار کے روزن بند کرتا ہے ایک روزن رہ جاتا ہے تو اس کو اپنے پیر سے بند کر کے حضور سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ! اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی صعوبتوں کے باعث اس قدر تھک چکے تھے کہ اندر آ کر اپنا سراقدس ابو بکر کی گود میں رکھ کر محسوس تراحت ہو گئے، عین اس وقت ایک زہر یا سانپ ابو بکر کے پاؤں کو ڈس لیتا ہے، شدت تکلیف کے باعث ابو بکر کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلتے ہیں لیکن وہ جسم کو جنبش تک نہیں ہونے دیتے اس خیال سے کہ کہیں مصطفیٰ کے آرام میں فرق نہ آ جائے۔ یہ ایک اور ”تلفِ جان“ کا امتحان تھا بحمد اللہ ”صدیق عتیق“، اس میں بھی فوز و فلاج سے ہمکنار ہوتا چلا گیا۔ لیکنے اب اس سے بھی زیادہ سخت

ڈاکٹر صاحزادہ ابوالخیر محمد زیری نشری تقاریر
منوہر (114)

امتحان کا وقت آتا ہے جس کے تصور سے آج بھی رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں حضور سرور کائنات اور آپ کے اصحاب، خصوصاً اس یار غار کے از لی دشمن، آپ کے خون کے پیاسے غار کے دہانہ تک آپنچھتے ہیں، اور اس قدر تریب ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف نظر ڈالیں تو سرکار پر نظر پڑ جائے، ایسے ہیبت ناک اور دہشت ناک وقت میں بھی یہ ابو بکر کی ہی ذات ہے جو یہ کہتی ہوئی مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے کہ "یار رسول اللہ ہؤلاء قومک یطلبو نک اما واللہ ما علی نفسي ابکی ولكن مخافة ان اری فیک ما اکرہ" (تفیر مظہری ص ۲۱۲) یعنی یار رسول اللہ! یہ آپ کی قوم آپ کی جستجو اور تلاش میں یہاں تک آپنچھی ہے، خدا کی قسم میں اپنی وجہ سے غمگین و اشکبار نہیں ہوں بلکہ اس خوف سے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچ جائے میرا پستہ پانی ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں بھی ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اس جانِ جہاں سرورِ عالم و عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں مخزوں و اشکبار ہو کر "لاتحزن ان الله معنا" میں معیت خاصہ کا تاج کرامت حاصل کر کے اپنے لئے سعادت دارین کا سامان مہیا کر لیا۔

الغرض یہ ہیں وہ کوچہ عشق کے صبر آزمایا اور کئھن مرا حل جن سے یہ صدقیق باوفا بآسانی گزرتا چلا گیا اور راہِ محبت میں قربانی جاں کے کسی موقعے دریغ نہ کر کے اپنے محبت صادق ہونے پر دلیل قائم کر گیا، اس خلوص و وفا، صدق و صفا کا اجر بارگاہ رسالت سے ابو بکر کو یہ ملا کہ محبت سے "محبوبیت" کا مرتبہ مل گیا اور محبوب خدا کے محبوب بن گئے، جس پر یہ حدیث شاہد ہے کہ حضرت عمر و بن

العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور میں
 نے عرض کی یا رسول اللہ! "ای الناس احب الیک" کہ لوگوں میں سب سے
 زیادہ آپ کو کون محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ "عائشہ" مجھے سب سے زیادہ
 محبوب ہے، حضرت عمرو بن العاص نے پھر عرض کیا کہ مردوں میں سب سے
 زیادہ کون محبوب ہے، تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "ابوها"
 یعنی عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔
 (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم ص ۵۵۵)۔ یہ تو تھا وہ اجر جو صدیق اکبر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت سے ملا، اور بارگاہ احادیث سے صدیق باوفا کو حبیب پر
 جاں نثاری وجہ بازی کا صلی یہ ملکہ ان کو "ثانی اثنین" کے خطاب سے
 سرفراز فرمائی کی وفا شعراً اور عشق مصطفوی پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے
 علاوہ ان کے بہت سے مدارج، خصوصیات لور کمالات کی طرف بھی اشارہ
 کر دیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ "الا تنصروه
 فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين، الآية" کہ
 جب کفار نے پیغمبر خدا کو مکہ سے نکلا تو اس وقت کون تھا جس نے ان کی مدد کی،
 ہاں ایسے پر خطر اور وہشتناک وقت میں ایک ان کا یار و فاشعار تھا جس نے وہاں
 بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا، قربان جاؤں اس یار باوفا پر جس کی پیچی اور پر خلوص
 رفاقت کی تصدیق اور اعلان "ثانی اثنین" کے لفظ سے خود قرآن نے کی
 ہو۔

اس ہی "ثانی اثنین" کے لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زیر کی نشری تقاریر

منیزہ (116)

پر خطر وقت میں جس نے اپنے آقا اور محبوب کا ساتھ نہ چھوڑا، اور حبیب خدا کیسا تھا اس تہائی کے عالم میں اگر کوئی ”دوسرا ذات“، نظر آئی اور مصطفیٰ کا اس وقت ”ثانی“، رہی تو یہی صدقیق باوفا کی ذات تھی۔ تواب یہی ذات اس امر کے زیادہ لائق ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد مناصب دینیہ و دنیویہ کی ادائیگی، اور تبلیغ اسلام میں بھی یہی مصطفیٰ کا ”ثانی“، اور آپ کا جانشین و خلیفہ بنے اور اس ہی میں یہ ہمت اور طاقت بھی ہے کہ اس منصب کو بخوبی سنبھال سکے۔ چنانچہ مرض الموت میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے رقت قلب کی وجہ سے کچھ توقف فرمایا تو اس وقت سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ”لا ینبغی لقوم فیهم ابوبکر ان یؤمهم غیره“ کہ اس قوم کے لئے یہ بات سزاوار نہیں جسمیں ابو بکر ہوں کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کو پھر اپنا امام بنائے۔

اسی حدیث سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نکتہ اخذ فرماتے ہیں کہ جو امامت میں اولی واقدم ہے وہ ”خلافت“ میں بھی اولی واقدم ہو گا، اسی رمز کو سمجھتے ہوئے علی شیر خدا نے کہا تھا کہ ”قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر دیننا فمن الذی یؤخذك فی دنیانا“ (افتحة اللمعات ص ۱۵۱، ازالۃ الخفاء) کہ حضور نے جب آپ کو ہمارے دینی امور میں مقدم کر دیا تو اب کون ہے جو آپ کو ہمارے دینی امور میں مؤخر کرے گا بلکہ اس میں بھی آپ ہی ہمارے پیشواؤ ہیں۔

بہر حال ”ثانی اثنین“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہی وہ ذات ہے جو آنحضرت کی بلا فصل نائب ہوگی، اور اسی میں اتنی طاقت ہے کہ اس عظیم نیابت کو سنبھال سکے اور یہ حقیقت تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرت کے وصال کے بعد اسلامی نوزائدہ حکومت جن جن مشکلات سے دوچار ہوئی اور مخالفت کی ہر چہار جانب سے جو تند و تیز آندھیاں چلیں اس میں استقامت و استقلال کے ساتھ قائم رہنا اور پامردی و حوصلہ سے سب کا مقابلہ کرنا یہ ”ابو بکر صدیق“ ہی کا کام تھا۔ (جزاہ اللہ عن اخیرالجزاء)۔

اس ہی ”ثانی اثنین“ کے لفظ میں اس امر کا اظہار بھی ہے کہ اس خلوت کدہ ناز میں دلدادگانِ جمال ضیاء بار اور مشتا قانِ دید یار میں سے ایک دیوانہ دلفگار کو وہ ساعتہ ہمایوں نصیب ہوئی کہ جس میں اس نے اپنے محوب بلکہ محوب رب العالمین کو اپنی گود میں لٹا کر، اس ماہ و شمع کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر ”ما زاغ البصر و ما طغی“ کے مصدق دیکھا اور مکملکی باندھکر دیکھا، اس کے جمال جہاں آراء کی دید سے اپنی تشکیل کو دور کیا، پیاسی نگاہوں کو جی بھر کے سیرا ب کیا، اس کے طلعت زیبا کی ضیاء باز و ضور یز کرنوں سے اپنے قلب و نگاہ کو خوب منور و مستنیر کیا۔ اس ہی ”ثانی اثنین“ کے لفظ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یوں تو ہر صحابی کو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت حاصل ہوئی لیکن وہ معیت خاصہ جس کا اظہار سرور کائنات نے ”لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ سے کیا، جس کے دامن میں لا متناہی اسرار و رموز اور انوار و تجلیات پوشیدہ تھے وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہوئی

کیونکہ یہی غار میں ”ثانی اثنین“ تھے یعنی یہی وہ دوسری ذات تھی جو اس خاص وقت میں غار کے اندر حبیب خدا کے ساتھ موجود تھی۔

چنانچہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی فضیلت کیلئے صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ رسول اللہ نے خدا کی وہ خاص معیت جو اپنے لئے ثابت کی ہے اس میں ابو بکر کو بھی شامل کر لیا (تفہیم مظہری ص ۲۰۷) اسی ”ثانی اثنین“ کے لفظ میں اس امر کی طرف بھی لطیف اشارہ موجود ہے کہ وہ اوصاف و کمالات جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے انکے ساتھ اگر کوئی متصف ہوا اور ان کمالات کا اگر کوئی مظہر اتم بناتو وہ ”آئینہ صدق“ تھا اور کیوں نہ ہو جب حضرت باقی باللہ اپنے خلوت خاصہ میں ایک نان بائی کو خوش ہو کر توجہ دیں تو وہ نان بائی صورت و سیرت میں آپ جیسا ہو جائے اور دروازہ کھلنے تو وہ ”باقی باللہ“ نظر آئیں تو یہاں بھی ان قربانیوں پر مسرور ہو کر غار کے خلوت کدہ میں اگر مرشد کریم مصطفیٰ علیہ التحیہ والتسلیم کی ایک توجہ خاصہ ابو بکر کو اپنا مظہر اتم بنادے، اپنے کمالات کی جلوہ گاہ بنانے کے خطاب سے نوازدے تو کونے تعجب کی بات ہے۔

اسی ”ثانی اثنین“ کے لفظ میں اس اہم اور عظیم امر پر بھی دلالت موجود ہے کہ اس حرم ناز میں، اس وقت نیاز میں خدا نے اپنے حبیب پر جو خاص انوار و تجلیات کی بارشیں کیں، خصوصاً اس آیہ میں جیسا کہ ارشاد ہے ”وانزل اللہ سکینتہ علیه“ کہ نسبت سکینہ جیسی عظیم اور خاص دولت سے سرفرازی عطا کی تو اسوقت ابو بکر کا دامن مراد بھی گوہر ہائے مقصود سے پُر ہو گیا اور ان بیش

بہا جواہر سے صدیق نے بھی اپنے خزینہ دل کو معمور کر لیا بالخصوص وہ ”نسبت سکینہ“ قلب مصطفیٰ سے ہوتی ہوئی قلب صدیق میں پچھی اور انکو عالم سے بے نیاز کر گئی۔

صاحب عرائس البيان فرماتے ہیں کہ یہ ”نسبت سکینہ“ سب سے پہلے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی پھر اس نوزے سے قلب صدیق نے ضیاء پائی کیونکہ اس خاص وقت کی خاص تجلی کی تاب لانا یہ کسی اولوالعزم پیغمبر بلکہ صرف حبیب خدا ہی کا کام تھا قلب صدیق میں اتنی طاقت نہ تھی کہ بلا واسطہ اس نوراول کی تابانیوں کی تاب لاسکے، (عرائس البيان ص ۳۲۹) اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ بواسطہ مصطفیٰ ”یہ نسبت سکینہ“ دو آتشہ ہو کر جو نازل ہوئی اسکو برداشت کرنا بھی اس عالم میں کسی کا کام نہ تھا، یہ قلب صدیق ہی تھا جو اس کو سہہ گیا۔

سبحان اللہ! انور فرمائیے کہ اس سلسلہ کا پھر کیا مقام ہو گا جسمیں یہ خاص ”نسبت سکینہ“ موجود ہو اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس سلسلے کو ”افضل الناس بعد الانبياء“ کیسا تھا نسبت ہو گئی اس کے افضل اعلیٰ ہونے میں پھر کیا شبہ رہ جاتا ہے اور وہ ”سلسلہ عالیہ نقشبندیہ“ ہے کہ اسکو اس صدیق باوفا کیسا تھا نسبت ہے جو بارگاہ نبوت کی سب سے محبوب شخصیت ہے انبياء کے بعد جسکے افضل الناس ہونے میں سبکا اتفاق ہے اور جسکو خدا اور حبیب خدا کی وہ خاص معیت اور قرب حاصل ہے کہ جو بڑے بڑے صحابہ بلکہ مکینان عرش کیلئے بھی قابل صدر شک ہے اسی ذات والاصفات سے تعلق اور نسبت زر کھنے والا سلسلہ پھر کیوں نہ اشرف و افضل ہو گا اسی لئے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سر حلقہ

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زیر کی نشری تقاریر
منیزبر (120)

و پیشو احضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد رہنڈی فرماتے ہیں کہ
 ”بِدَازِکَمْ طَرِيقَةً كَمْ أَقْرَبُ أَسْتَ وَاسِبَقُ وَأَوْفَقُ وَأَوْسَقُ
 وَاسِدَمُ وَاحِدَكَمُ وَاصِدَقُ وَأَوْلَى وَاعْلَى وَاجْلُ وَارْفَعُ وَكَلُ وَاجْلُ
 طَرِيقَه عَالِيهِ نقشبندیہ است۔“

اسی ”ثانی اشینیں“ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صرف اس
 غار میں ہی حضور کے ثانی نہیں رہے بلکہ اسلام میں بھی ثانی، بدر کے دن عریش
 میں بھی ثانی اور وفات کے بعد قبر میں بھی ثانی، کل قیامت کے دن حشر میں بھی
 ثانی، حوض کوثر پر بھی آپکے ثانی، اور جنت میں داخل ہونے میں بھی آپکے یہی ”
 ثانی“ ہونگے، جیسا کہ خود حضور کا ارشاد ہے کہ ”امانک یا ابابکراول من
 يدخل الجنة من امتی“ (مشکوٰۃ شریف بحوالہ سنن ابو داؤد، ص
 ۵۵۵) کہ اے ابو بکر تو میری امت میں سب سے پہلا شخص ہو گا جو جنت میں
 داخل ہو گا، یہاں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دسری ذات یہی نظر آتی
 ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ نے اس مشرع میں سب کچھ فرمادیا۔

ثانی اسلام و غار بدر و قبر

غرضیکہ ثانی اشینیں کا لفظ صدق اکبر رضی اللہ عنہ کے وسیع کمالات اور
 آپ کے قرب کے انتہائی درجات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

جامع القرآن کی حیثیت سے

قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ "ان اصحاب نے نزلنا
الذکر و ان الله لحفظون" کہ اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے اثار اور ہم ہی
اسکی حفاظت کرنے والے ہیں اپنے اس وعدہ کا دوسرے مقام پر سورہ قیامہ میں
اللہ تعالیٰ یوں اعادہ فرماتا ہے کہ "ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذَا قرآنہ
فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ" پیش کیا ہے ذمہ اس قرآن کا جمع
کرنا اور اسکا پڑھنا پھر جب ہم پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کے ساتھ رہ پھر بلاشبہ
ہم پر ہے اسکا کھولنا اور بیان کرنا۔ ان آیات میں سے یہ بات واضح ہو کہ سامنے آگئی
کہ قرآن کے نہ صرف معانی بلکہ معانی اور مضامین کے ساتھ ساتھ اسکے الفاظ
عبارات اور حروف تک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے
پھر بھلا جسکی حفاظت کی ذمہ داری خود خداۓ بزرگ و برتر اپنے اوپر لے لے دے
چیز بھلا کیسے غیر محفوظ رہ سکتی ہے۔

چنانچہ شروع سے ہی قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب ظاہر ہونے
شروع ہو گئے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حافظہ
ایسا عطا فرمایا کہ جو آیات حضور سے سنتے تھے وہ فوراً ضبط کر لیا کرتے تھے یہاں تک
کہ جب پورا قرآن نازل ہو گیا تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جنکے سینے میں

پورا قرآن محفوظ تھا چنانچہ قرطبی کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک جنگ کے موقعہ پرستر (۷۰) کے قریب قرآن کے حفاظ شہید ہوئے لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لئے اور اسباب بھی فراہم کئے گئے اور وہ یہ تھے صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کو تحریری طور پر بھی جمع کرنا شروع کر دیا تھا چنانچہ بخاری شریف میں حضرت قادہ سے ایک روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ عہد رسالت میں کن کن لوگوں نے قرآن کو جمع کر لیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چار اشخاص تھے یعنی ”ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابوزید“ اور کس طرح جمع کیا؟ کس چیز پر تحریر کیا؟ اس کیلئے کسی روایت میں آتا ہے کہ چڑیے کے مکڑوں پر کسی میں آتا ہے کہ باریک اور چکنے پھردوں پر، تو کسی میں آتا ہے کہ اونٹ کے شانہ کی ہڈیوں پر، الغرض قرآن کا جب نزول ختم ہوا تو اسوقت قرآن نہ صرف سینکڑوں اور ہزاروں سینوں میں بلکہ تحریری طور پر بھی مختلف قسم کے مکڑوں میں موجود تھا لیکن چونکہ وہ منتشر طور پر تھا اور کسی بھی مکڑے یا کسی بھی حصے کے گم ہو جانے کا اسکی امکان تھا اسلئے اس وہم اور اس شک کو بھی ختم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اسکی مزید حفاظت کا انتظام فرمایا اور اسکو ایک ”مصحف“ کی ایک کتابی شکل دینے کا عظیم اور اہم کام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے لیا اور یہ سعادت انکو عطا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ یمامہ کے موقعہ پر جب بہت سے حافظوں کی شہادت کی خبر حضرت ابو بکر صدیق کو ملی تو اسوقت حضرت عمر بھی

(123)

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زیر کی نشری تقاریر صفحہ نمبر

وہیں موجود تھے آپ کو ان حفاظت کی شہادت کی خبر سے بڑی تشویش ہوئی اور آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن ہمارے ہاتھوں سے چلا جائیگا، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم فرمادیں۔

یہ سنکر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے عمر جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اسے میں کس طرح کروں؟ اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ ”واللہ یہ بات بہتر ہے“ غرضیکہ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے بار بار اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کا دل بھی کھول دیا اور وہ حضرت عمر کی رائے سے متفق ہو گئے۔

اس کام کیلئے حضرت زید بن ثابت کا انتخاب کیا گیا چنانچہ حضرت ابو بکر نے ان کو بلا یا اور انسے کہا کہ تم سبھدار نوجوان ہو علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی رہ پکے ہو لہذا اب یہ کام تمہارے پردا کیا جاتا ہے تم تحقیق و تفییش کر کے اس کو جمع کرو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر مجھ کو پہاڑ ایک جگہ بے ہٹا کر دونسری جگہ رکھ دینے کا حکم دیتے تو یہ بات مجھ پر اتنی گراں نہ ہوتی جس قدر قرآن کو جمع کرنے کا کام مجھ پر شاق گزرا ہے (انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت ابو بکر نے کہا تھا) ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ تم دونوں مسجد کے دروازہ پر بیٹھ جاؤ پھر اسکے بعد جو شخص تمہارے پاس کتاب اللہ کا کوئی حصہ معد دو گواہوں کے لائے تو اس کو قبول کرو چنانچہ یہ حضرات اسوقت تک قرآن کا کوئی حصہ تسلیم

نہیں کرتے جب تک وہ لانے والا آدمی اپنے ساتھ دو گواہوں کو پیش نہ کرتا اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو مصحف میں تحریر کرتے وقت کس قدر احتیاط ملحوظ رکھی گئی، اسلئے کہ حضرت زید خود حافظ تھے کاتب وحی تھے قرآن کو حضور کے زمانہ میں خود لکھا تھا پھر لانے والا حافظ قرآن ہوتا تھا اور پھر وہ لکھا ہوا، اپنا تحریر کردہ علیحدہ لاتا تھا لیکن اسکے باوجود اس کا دو شہادتوں کا بھم پہنچانا حد درجہ کی احتیاط تھی اور ہماری آنے والی نسلوں پر اور دیگر اقوام پر یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ ہماری آسمانی کتاب ہر قسم کی تحریف و تبدل سے محفوظ ہے اس میں صرف خدا کے کلام کے علاوہ کسی کا کلام شامل نہیں ہے اور یہ ہو بھی کس طرح سکتا تھا سلئے کہ قرآن واضح اعلان فرم رہا ہے ”وانہ لکتاب عزیز لا یاتیه“

الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد“ پیشک یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو غالب ہے اور باطل نہ اسکے سامنے سے اور نہ اسکے پیچھے سے اس کے پاس آئے گا یہ حکمت والے اور خوبیوں والی ذات کی طرف سے اتراء ہے۔

الغرض حضرت ابو بکر و عمر کی کوششوں اور کاوشوں سے قرآن کو مختلف مکڑوں سے جمع کر کے چند صحائف میں نقل کر دیا گیا اور وہ منقول صحیفے حضرت ابو بکر کے پاس رہے انکے بعد حضرت عمر کے پاس اور انکے بعد حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان کا زمانہ آگیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب قرآن کو تیسری دفعہ جمع کیا گیا، اب سوال یہ ہے کہ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی جمع تھا اسکے بعد ایک

مصحف میں ابو بکر و عمر نے جمع کر دیا اب جمع کرنے کا کیا مطلب؟ اور حضرت عثمان کو جو جامع قرآن کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اسکی تفصیل یہ ہے کہ عرب کی زبان بڑی وسیع ہے مختلف علاقوں اور مختلف قبیلوں کی عربی میں کافی فرق پڑ جاتے ہیں چنانچہ ہر قبیلہ نے اور ہر علاقہ کے رہنے والوں نے قرآن کو اپنی اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیا جب قرآن میں اختلاف پیدا ہوا تو ہر ایک نے اپنی قرأت کی برتری ثابت کرنے کیلئے کوشش شروع کر دی حتیٰ کہ نوبت مار پنائی اور جنگ و جدل تک آگئی۔

چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ آریہ اور آذربائیجان کی فتح کے موقع پرشامی اور عراقی دونوں ساتھ ملکہ معرکہ آرائی میں مصروف تھے وہاں حضرت حذیفہ نے جب دونوں کی قرأتیں سینیں تو دونوں کی قراؤں میں زبردست اختلاف کو دیکھ کر آپ حیران رہ گئے اور یہ بات آپ نے حضرت عثمان سے آکر کہی کہ خدارا آپ مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی طرح باہم بر سر پیکار ہونے سے بچالیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے عہد میں قراؤں کے درمیان اتنا اختلاف تھا کہ پڑھنے والے بچوں اور پڑھانے والے استادوں کے درمیان تلواریں چل گئیں الغرض جب ہر طرف سے افتراق او را منتشار کی خبریں حضرت عثمان کو آنے لگیں تو آپ متذکر ہو گئے اور آپ نے ایک امت میں ہونے والے اس انتشار اور افتراق کو ختم کرنے کے لئے یہ لائجہ عمل اختیار فرمایا کہ عرب کی دوسری تمام زبانوں میں قرآن کی قرأت کو منوع قرار دے دیا اور صرف ایک قریش کی قرأت پر سب کو تلاوت کرنے کا حکم

فرمادیا اور تحریری طور پر جتنے دوسرے صحیفے دوسری قرأتوں میں موجود تھے سکونت
کرنے کا حکم دے دیا۔

اور صرف ایک قریشی لغت پر قرآن کی کتابت کرائے تمام ممالک اسلامیہ
میں اسکی نقول بھیج دیں اور حکم صادر فرمادیا کہ اس قرأت اور لغت کے علاوہ کسی بھی
لغت میں قرآن نہ پڑھا جائے اور اس ایک مصحف کی کتابت میں بھی حضرت عثمان
نے بڑی احتیاطی تدبیر اختیار فرمائیں جسمیں ایک تو یہ تھی کہ حضرت خصہ کے
گھر سے وہ صحیفے منگائے جو ابو بکر کے زمانہ میں تحریر ہوئے تھے پھر آپ نے صحابہ
کبار کی ایک کمیٹی تشکیل دی جسمیں زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن وقار،
عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کو شامل کیا بعض احادیث میں آتا ہے
کہ آپ نے بارہ معزز اکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی اور انکو حکم دیا کہ ان صحائف
کو سامنے رکھ کر تم ایک صحیفہ تیار کرو اور جہاں تمہارے درمیان اختلاف ہو وہاں
قریشی زبان کو ترجیح کرنا اور اسکی لغت کو اختیار کرنا تفسیر اتقان میں ہے کہ جب کسی
آیت کے متعلق اختلاف ہوتا کہ اس کو کس طرح اور کس لغت پر پڑھا جائے تو پھر
صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ یہ آیت سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس کو سکھائی تھی اور حضور کے سامنے کس شخص نے اسکو پڑھا تھا چنانچہ اس صحابی کی
تلash شروع ہو جاتی تھی اور جہاں بھی وہ ہوتا تھا اس کو بلا کر اس سے دریافت
کیا جاتا تھا اور اسکی قرأت کے مطابق پڑھا جاتا تھا کہ بعض دفعہ تو ایسے اشخاص اور
ایسے صحابہ کرام کو بھی بلا نا پڑ گیا جو مدینہ سے تین دن اور تین رات کی مسافت پر دور
دراز شہروں میں مقیم تھے چنانچہ ان کو بھی وہاں سے بلا یا گیا اور ان سے دریافت

کیا گیا کہ بتاؤ تم کو یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعلیم دی تھی جس طرح انسے بتایا اسی طرح پھر اسکو لکھ لیا گیا۔

الغرض حضرت عثمان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو تفریق و افتراق اور انتشار اور پر اگندگی سے بچالیا ورنہ اگر آپ ایک قرأت پر لوگوں کو جمع نہ کرتے اور مختلف قرأتوں اور لغتوں میں پڑھنے کی اجازت دیے رکھتے تو عالم اسلام میں ایسا فساد پیدا ہو جاتا جسکے تصور سے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اسکی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک لغت پر اور ایک قرأت پر جمع کیا اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک عظیم طوفان اور ایک ہولناک تباہی سے بچالیا آج جو وحدت کے حسین نظارے نظر آ رہے ہیں کہ ہر مقام پر قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے خواہ عربی ہو یا عجمی، عراقي ہو یا مشتملی، مکی ہو یا مدینی، سوڈانی ہو یا حجازی، ہر ایک اسی ایک لغت قریشی پر قرآن کو پڑھتا ہے یہ سب صدقہ ہے عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی طرف سے انکو جزاۓ خیر عطا فرمائے (ما خوذ از مشکوٰۃ فضائل قرآن، ازالۃ الخفاء، الاتقان)

ختم شد

Marfat.com

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر خاوند نسیم کی دیگر تصاویر

امربان اور
دو تین دنول بھی

پھولوں

50

ضد میت

کربلا کا ستارہ

دارجی کا شرعی حج

ذوالہجہ کا شرعی حج

ہبیہ میل کا شرعی حج

برلنگنڈریوں

7988

رکن الدین مطبوعات
حیدر آباد

Muhammad Rashid Printing, Advertising & Marketing Network
Hyderabad, 0321-3015220, 0333-2622486

Marfat.com